

FR

EN

NL

DE

IT

ES


PT





AR



FA

# companion




**A****B****C****C4****C5****C1****C2****C3**

**E****D****I****F****G**




"clic" "clic"





2





1  
D3  
D4




0.7L  
Steam









## CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

### Vis-à-vis de la sécurité de la personne

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil et conservez-le : une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage. Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Maintenez votre appareil hors de portée des enfants.
  - Lors de l'utilisation de l'appareil, certaines pièces atteignent des températures élevées (paroi inox du bol, entraîneur commun amovible, parties transparentes du couvercle et du bouchon, pièces métalliques sous le bol, panier). Elles peuvent occasionner des brûlures. Manipulez l'appareil par les pièces plastiques froides (poignées, bloc moteur). Le témoin lumineux de chauffe rouge indique qu'il y a un risque de brûlure.
  - La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
  - L' appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
  - N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. Afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le cordon par un centre service agréé (voir liste dans le livret service).
  - L'appareil ne doit pas être immergé. Ne passez pas le bloc moteur (**A**) sous l'eau courante.
  - Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 2000 m. Le fabricant décline toute responsabilité et se réserve le droit de résilier la garantie en cas d'utilisation commerciale ou inadaptée, ou de non



respect des consignes.

- Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de type travail.
  - des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels.
  - des fermes.
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel.
  - des environnements du type chambres d'hôtes.



- Votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures.

**Manipulez avec précaution le couvercle et le bouchon (utilisez si nécessaire un gant, une manique, etc). Manipulez le bouchon par sa partie centrale.**

- Ne faites pas fonctionner l'appareil si le joint n'est pas positionné sur le porte joint, si le porte joint n'est pas assemblé dans le couvercle. Il est impératif de faire fonctionner l'appareil avec le bouchon positionné dans l'orifice du couvercle (sauf en cas d'information spécifique recette).



**AVERTISSEMENT : Attention aux risques de blessure en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.**

Prenez des précautions avec les lames du couteau hachoir ultrablade (F1) et du couteau pour pétrir/concasser (F4) lorsque vous les nettoyez et lorsque vous videz le bol, elles sont extrêmement coupantes.

Soyez vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

Rangez le couteau hachoir ultrablade (F1) dans le bol après chaque utilisation.

**AVERTISSEMENT : Soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage et versage) : évitez tout débordement de liquide sur les connecteurs.**

**AVERTISSEMENT : Votre appareil émet de la vapeur qui peut occasionner des brûlures.**

**AVERTISSEMENT : La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.**

Assurez vous de ne toucher que les poignées de votre produit (gâ-

## **chlettes D2, poignée du couvercle E2 et du bouchon E1) pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet.**

Reportez-vous au mode d'emploi pour le réglage des vitesses et le temps de fonctionnement de chaque accessoire et de chaque programme.

Reportez-vous au mode d'emploi pour l'assemblage et le montage des accessoires sur l'appareil.

Reportez-vous au mode d'emploi pour le nettoyage et l'entretien de votre appareil.

Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil:

- Débrancher l'appareil.
- Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
- Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
- Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante

## **MARCHES EUROPEENS SEULEMENT :**

- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une

surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

## **Vis-à-vis du raccordement électrique**

- L'appareil doit être branché sur une prise de courant électrique reliée à la terre.
- L'appareil est conçu pour fonctionner uniquement en courant alternatif. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil, le câble d'alimentation à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil,

près d'une source de chaleur ou sur un angle vif.

### Vis-à-vis d'une mauvaise utilisation

- Ne touchez pas au couvercle avant l'arrêt complet de l'appareil (touche stop), attendez que les aliments mixés ne tournent plus.
- Versez toujours les ingrédients solides en premier dans le bol avant d'ajouter des ingrédients liquides, sans dépasser le repère 2,5 L MAX gravé à l'intérieur du bol (**Cf. Fig. 11**). Si le bol est trop rempli, de l'eau bouillante peut-être éjectée.
- Attention dans le cadre du programme cuisson vapeur, respectez le niveau de 0,7 litre d'eau (**Cf. Fig. 4.2**).
- Ne placez jamais vos doigts ou tout objet dans le bol pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas le bol comme récipient (conservation, congélation, stérilisation).
- Placez l'appareil sur un plan de travail stable, résistant à la chaleur, propre et sec.
- Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou d'un placard, la vapeur produite pouvant endommager les éléments.
- Ne placez pas votre appareil près d'une source de chaleur en fonctionnement (plaque de cuisson, appareil électro-ménager, etc...).
- Ne couvrez pas votre couvercle avec un torchon ou autre, ne cherchez pas à boucher l'orifice du couvercle, utilisez le bouchon régulateur de vapeur.
- Ne laissez pas pendre vos cheveux, un foulard, une cravate,... au dessus du bol pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne passez jamais les accessoires dans un four à micro ondes.
- N'utilisez pas l'appareil en plein air.
- Ne dépassez jamais la quantité maximum indiquée dans la notice.
- Rangez l'appareil lorsqu'il est refroidi.
- Ne placez pas le bol au congélateur pour le refroidir, utilisez le réfrigérateur.

### SAV

- Pour votre sécurité, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange, autres que ceux fournis par les centres de service après-vente agréés.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Consultez le tableau "Si votre appareil ne fonctionne pas, que faire ?" à la fin du mode d'emploi.

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil qui est exclusivement prévu pour la préparation des aliments à usage domestique, à l'intérieur de la maison.



En parcourant cette notice , vous découvrirez des conseils d'utilisation qui vous feront entrevoir le potentiel de votre appareil : préparation de sauces, de soupes, de mijotés, de cuissons vapeur, de pâtes et de desserts.

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL :

- |   |   |
|---|---|
| <b>A</b> Bloc moteur  | <b>D</b> Ensemble Bol   |
| <b>B</b> Tableau de commandes   | <b>D1</b> : bol inox  |
| <b>B1</b> : touches de sélection programmes automatiques                      | <b>D2</b> : gâchettes   |
| <b>B2</b> : sélecteur vitesse   | <b>D3</b> : entraîneur commun amovible  |
| <b>B3</b> : sélecteur température de cuisson et/ou témoin lumineux de chauffe | <b>D4</b> : joint d'étanchéité  |
| <b>B4</b> : sélecteur durée de fonctionnement                                 | <b>D5</b> : bague de verrouillage entraîneur                                      |
| <b>B5</b> : sélecteur turbo/pulse   | <b>E</b> Ensemble couvercle   |
| <b>B6</b> : sélecteur +/-   | <b>E1</b> : bouchon régulateur vapeur   |
| <b>B7</b> : bouton start/stop/reset   | <b>E2</b> : couvercle   |
| <b>C</b> Ecran LCD  | <b>E3</b> : porte joint   |
| <b>C1</b> : affichage vitesse   | <b>E4</b> : joint étanchéité  |
| <b>C2</b> : affichage température   | <b>F</b> Accessoires :  |
| <b>C3</b> : affichage temps   | <b>F0</b> : boîte rangement accessoires   |
| <b>C4</b> : affichage sélection programme                                     | <b>F1</b> : couteau hachoir ultrablade  |
| <b>C5</b> : affichage témoin de sécurité                                      | <b>F2</b> : mélangeur   |
|   | <b>F3</b> : batteur   |
|   | <b>F4</b> : couteau pour pétrir / concasser                                       |
|   | <b>F5</b> : panier vapeur   |
|   | <b>G</b> Spatule  |
|   | <b>H</b> Interrupteur 0/1 pour couper l'alimentation électrique de votre appareil |
|   | <b>I</b> Brosse de nettoyage  |

## DONNÉES TECHNIQUES DE L'APPAREIL :

- 
- |   |   |
|---|---|
| <b>Puissance :</b>                        | 1550W (1000W : résistance chauffante / 550W : moteur )  |
| <b>Plage de température :</b>             | de 30° à 130°C<br>réglable par pas de 5°C.  |
| <b>Plage de durée de fonctionnement :</b> | de 5s à 2 heures<br>réglable par pas de 5s mini à 1min maxi.  |
| <b>Nombre de vitesses : 12</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 vitesses intermittentes :<br/>vitesse 1 ( 5s On / 20s Off ).<br/>vitesse 2 ( 10s On / 10s Off ).</li> <li>- 10 vitesses continues progressives (vitesses 3 à 12).</li> </ul> |
-

Votre appareil est équipé d'un interrupteur 0/1, basculez l'interrupteur sur 1. (Cf. Fig. 9)  
Vous disposez avec votre appareil des accessoires suivants :

Couteau hachoir		Mixer des soupes		3min	2,5L	
		Mixer des compotes		40s	1Kg	
		Hacher les légumes		15s	1Kg	-->100°C
		Hacher de la viande		30s	1Kg	
		Hacher du poisson		15s	1Kg	
<b>!! N'utilisez pas cet accessoire pour hacher des produits durs, utilisez le couteau pétrin/concasseur F4.</b>						
Mélangeur		Rissolés	3	5min	500g	130°C
		Mijotés	1	45min	2,5L	95°C
		Risottos	2	22min	1,5Kg	95°C
		Ratatouilles, Chutneys, Légumineuses (réglages : voir livret recettes)				
Batteur		Blancs en neige	7	5/10min	7 max	
		Mayonnaises, Crèmes fouettées	7	2/5min	0,5L	
		Sauces, crèmes	4 à 7	1/20min	1L	60>90°C
		Ecrasé de pommes de terre	5 à 7	1min	1L	
		Polenta	4 à 5	1/16min	1L	90°C
Couteau pétrin/concasseur		Pétrir les pâtes à pain blanc	5	2min 30s	1,2Kg	
		Pétrir les pâtes brisées, sablées, pains spéciaux	5	2min 30s	1Kg	
		Pétrir les pâtes levées (brioche, kouglof...)	+ 5	1min 30s	0,8Kg	
		Mélanger les pâtes légères (cake...)	+ 5	40s	1Kg	
		Pulvériser les fruits à coques	5	3min	0,6Kg	
		Hacher les produits durs	12	1min	0,6Kg	
		Piler la glace	12	1min	6 à 10	
Bâton vapeur		Pâte à crêpes, gaufres	10	1min	1,5L	
		Cuisson vapeur de légumes, de poissons ou de viandes		20/40min	1Kg	100°C
		Soupes avec morceaux	12	3min	2,5L	100°C
Bouchon	E1	Bouchon de régulation d'extraction de vapeur maxi vapeur (a) = cuisson vapeur. mini vapeur (b) = Risotto, crèmes dessert, sauces...				a  maxi      b  mini

Ces accessoires sont également pourvus de zones de préhension pour en faciliter la manipulation lors de leur utilisation au cours d'une préparation.

## VOTRE APPAREIL POSSÈDE 2 MODES DE FONCTIONNEMENT :

- **Mode programme automatique :**

Vitesse, température de cuisson et durée sont pré-programmées pour réaliser des sauces, des soupes, des mijotés, des cuisssons vapeur, des pâtes et des desserts en automatique.

- **Mode manuel :**

Réglages personnalisés des paramètres vitesse, température de cuisson et durée pour une utilisation selon votre convenance.

## VOTRE APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UNE SÉCURITÉ DE VERROUILLAGE DU COUVERCLE

Le couvercle est sécurisé à chaque démarrage de l'appareil. Cette sécurité empêche l'ouverture du couvercle pendant la réalisation d'une recette (**fig.16**).

**Ne tentez pas de forcer sur le couvercle lorsqu'il est verrouillé.**

Cette sécurité se débloque à chaque arrêt de l'appareil.

Si vous avez sélectionné une température supérieure ou égale à 50°C et une vitesse supérieure ou égale à 5, un décompte de 10 secondes apparaît alors sur l'écran LCD du tableau de commandes (**Fig.17**).

L'ouverture du couvercle ne sera possible qu'à la fin du décompte.

## MISE EN PLACE DU BOL, DE SES ACCESSOIRES ET DE L'ENSEMBLE COUVERCLE

- Avant la première utilisation, nettoyez tous les éléments (**D, E, F, G**) à l'eau chaude savonneuse, mais pas le bloc moteur (**A**). Votre bol (**D**) est équipé d'un entraîneur démontable (**D3**) pour faciliter le nettoyage.
- Assurez-vous que tout emballage soit retiré avant utilisation, notamment la protection située entre le bol (**D**) et le bloc moteur (**A**).
- Placez le joint d'étanchéité (**E4**) sur le porte joint (**E3**) (**Cf. Fig. 1**), clipez l'ensemble sur le couvercle (**E2**) (**Cf. Fig 2**).

- Positionnez le joint d'étanchéité (**D4**) sur l'entraîneur commun (**D3**). Verrouillez l'ensemble sur le fond du bol avec la bague de verrouillage (**D5**) (**Cf. Fig. 3**).

- Positionnez l'accessoire choisi dans le bol :

- les accessoires (**F1, F2, F3, ou F4**) sur l'entraîneur commun au fond du bol (**Cf. Fig. 4.1**),

- le panier vapeur (**F5**) à l'intérieur du bol, (**Cf. Fig. 4.3** ), en ayant pris soin au préalable de remplir la cuve de 0.7l de préparation liquide (eau, sauce...) (**Cf. Fig. 4.2** ).

- Incorporez les ingrédients à l'intérieur du bol ou du panier vapeur.

- Positionnez le couvercle sur le bol (**D**) en alignant les deux triangles (**Cf. Fig. 5**), verrouillez le couvercle sans appuyer en le tournant dans le sens de la flèche (**Cf. Fig. 6**).

- Positionnez le bouchon régulateur de vapeur (**E1**) sur le couvercle, 2 positions sont possibles, la fonction souhaitée étant positionnée vers soi : maxi vapeur (**a**) ou mini vapeur (**b**).

 La position « mini vapeur » permet de laisser échapper un maximum de condensation et ainsi obtenir des plats ou des sauces avec une meilleure consistance (Risotto, crèmes dessert , sauces, etc....).

 La position « maxi vapeur » permet de gagner un maximum de chaleur et de vapeur dans le bol pour toutes les cuisssons à la vapeur (soupes, etc...). Cette position évite également les éclaboussures pendant le mixage.

- Positionnez le bol (**D**) sur le bloc moteur (**A**) jusqu'à entendre un " clic " (**Cf. Fig. 8**).
- L'appareil démarre uniquement si le bol et le couvercle sont correctement positionnés et verrouillés sur le bloc moteur.

**En cas de mauvais positionnement ou de mauvais verrouillage de l'un ou de l'autre (**Cf. Fig. 10.1 et 10.2**), le logo  se met à clignoter lorsque l'on active une fonction.**

## UTILISATION DU TABLEAU DE COMMANDE (B)

### Sélection d'un programme automatique :



Sauces

Cuisson vapeur  
(sous programme **P1** vapeur douce / **P2** vapeur intense)Soupes  
(sous programme **P1** velouté /  
**P2** mouliné)Pâtes  
(sous programme **P1** pain /  
**P2** brioche / **P3** cake)Mijotés  
(sous programme **P1** étuvée de  
légumes / **P2** mijoté / **P3** risotto)

Desserts

### Sélection paramètres personnalisés :



Selection de la vitesse moteur.  
2 vitesses intermittentes et 10 vitesses continues progressives.



Augmentation de la vitesse, de la température de cuisson et de la durée.

Selection de la température de cuisson.

Diminution de la vitesse, de la température de cuisson et de la durée.



De 30° à 130°C.  
Témoin lumineux de chauffe : il s'allume au démarrage de la cuisson et s'éteint lorsque la température à l'intérieur du bol passe en dessous des 50°C.



Ce bouton a **3 fonctions** :

- "**Validation**" du choix de votre programme automatique ou de vos paramètres choisis dans le cadre d'une utilisation manuelle (vitesse, température de cuisson, temps).



Sélection de la durée de fonctionnement.  
De 5s à 2 heures.

- "**Pause**" au cours d'une utilisation, une fois que l'appareil est lancé.



Sélection des fonctions **turbo** (vitesse maximale en accès direct) et **pulse** (marche intermittente) sans recourir à d'autres réglages.



- "**Réinitialisation**" des paramètres sélectionnés de l'appareil par une pression de 2 secondes.

### Conseil d'utilisation :

Votre appareil est équipé d'un micro processeur qui contrôle et analyse sa stabilité. En cas d'instabilité, la vitesse de rotation du moteur sera automatiquement réduite, si cette instabilité persiste, le moteur sera arrêté et un "STOP" s'affichera sur votre écran.

- Vérifiez que la quantité d'ingrédients ne soit pas trop importante et que la vitesse utilisée soit adaptée.
- Vérifiez que vous utilisez l'accessoire recommandé.
- Puis redémarrez votre appareil normalement.

## UTILISATION DE L'APPAREIL

Branchez l'appareil, basculez l'interrupteur (**H**) sur 1, l'écran LCD (**C**) affiche tous les paramètres à " 0 " (Cf. Fig. 9)

### MODE PROGRAMME AUTOMATIQUE



1- Appuyez sur le programme de votre choix (**B1**), sur l'écran apparaît un triangle (**C4**) sous le programme sélectionné. Dans le cas des programmes soupes, mijotés, pâtes, des appuis successifs permettent de faire défiler les différents sous-programmes.



2- Les paramètres pré-programmés peuvent être modifiés le temps d'une recette (selon la recette choisie, les ingrédients, les quantités préparées). Appuyez sur le sélecteur vitesse (**B2**) ou le sélecteur température de cuisson (**B3**) ou le sélecteur temps (**B4**), le paramètre choisi clignote à l'écran (**C1-C2-C3**).



3- Réglez le(s) paramètre(s) à l'aide du sélecteur +/- (**B6**).



4- Lorsque vous avez fini de modifier tous vos paramètres, appuyez sur le bouton " start " (**B7**) pour démarrer le programme. Lorsque votre appareil utilise le mode cuisson, le témoin lumineux rouge (**B3**) s'allume pour vous informer que la cuisson a démarré.

5- Lorsque le programme est terminé, l'appareil émet 3 bips.

6- A la fin des programmes sauces, soupes, mijotés P2 et P3, cuisson vapeur et dessert, l'appareil passe automatiquement en maintien au chaud pendant 45 minutes pour conserver la préparation prête à être consommée. En programme sauces, mijotés P2 et P3, dessert et en mode manuel, le moteur de l'appareil fonctionne à une vitesse spécifique, dans le but de préserver la préparation et d'éviter que celle-ci n'adhère au fond du bol. Pour stopper le maintien au chaud, il suffit d'appuyer sur le bouton " stop " (**B7**). Si vous ouvrez le couvercle, appuyez sur les gâchettes (**D2**) ou retirez le bol , le maintien au chaud sera automatiquement arrêté.

A la fin des programmes sauce, mijoté P2 et P3 et crème dessert, pendant le maintien au chaud, le moteur continue à tourner afin d'éviter que la préparation ne colle au fond du bol.

A la fin du pétrissage des programmes pâte P1 et P2, l'appareil passe en mode " levée de la pâte " à 30°C pendant 40 minutes pour donner un meilleur volume à vos pâtes. Si vous ouvrez le couvercle, appuyez sur les gâchettes (**D2**) ou retirez le bol , l'appareil passe en mode pause, vous avez la possibilité de le relancer en appuyant de nouveau sur " start ".

Si vous souhaitez stopper ce mode, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton " stop ".

7- Appuyez sur les gâchettes (**D2**) puis soulevez l'ensemble bol (**D**) (Cf. Fig. 12).

Lorsque le programme automatique est lancé, vous avez la possibilité d'arrêter l'appareil à tout moment en appuyant sur le bouton " stop ". Le programme automatique est alors en mode pause, vous avez la possibilité de le relancer en appuyant de nouveau sur " start ". Si vous vous êtes trompé de programme et si vous voulez annuler, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton " stop ".

## DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES AUTOMATIQUES PROPOSÉS :

	Sauce	Soupe P1	Soupe P2	Mijoté P1	Mijoté P2	Mijoté P3	
Programmes automatiques							
Accessoires autorisés							
Vitesse "par défaut" (ajustable)		V6 (V2 à V8)	10 pulses et V12 pendant 2 min	V7 à V10 pendant 30s	V3	V1	V2
Température "par défaut" (ajustable)		70°C (50°C à 100°C)	100°C (90°C à 100°C)	100°C (90°C à 100°C)	130°C (non ajustable)	95°C (80°C à 100°C)	95°C (80°C à 100°C)
Temps "par défaut" (ajustable)		8 min (5 min à 40 min)	40 min (20min à 60 min)	45 min (20 min à 60 min)	5 min (2 min à 15 min)	45 min (10 min à 2h)	20 min (10 min à 2h)
Maintien au chaud "par défaut" en fin de programme		45 min	45 min	45 min		45 min	45 min
Vitesse moteur en maintien au chaud		V4				5s ON en V3 / 20s OFF	10s ON en V3 / 10s OFF

	Vapeur P1	Vapeur P2	Pâte P1	Pâte P2	Pâte P3	Dessert	
Programmes automatiques							
Accessoires autorisés							
Vitesse "par défaut" (ajustable)				V5 pendant 2 min 30s	V5 pendant 1 min 30s puis V6 pendant 2min	V3 pendant 40s puis V9 pendant 3 min	V4 (V2 à V8)
Température "par défaut" (ajustable)		100°C (non ajustable)	100°C (non ajustable)				90°C (50°C à 110°C)
Temps "par défaut" (ajustable)		30 min (1 min à 60 min)	35 min (1 min à 60 min)	2 min 30s (30s à 2 min 30s)	3 min 30s (30s à 3 min 30s)	3 min 40s (1 min 40s à 3 min 40s)	15 min (5 min à 60 min)
Maintien au chaud "par défaut" en fin de programme		45 min	45 min				45 min
Vitesse moteur en maintien au chaud				40 min	40 min		V4

## UTILISATION DU PANIER VAPEUR

Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif, ils permettent dans la plupart des cas une cuisson satisfaisante.

Néanmoins, certaines conditions vont influer sur le temps de cuisson :

- la taille des légumes (coupés ou non-coupés)
- la quantité des ingrédients dans le panier
- la variété des légumes, leur maturité
- la quantité d'eau dans le bol, qui doit correspondre à la graduation (0.7L).

Bien penser à utiliser le bouchon vapeur dans le sens "maxi vapeur" (a) vers vous.

Si la cuisson est insuffisante, vous pouvez ajouter un temps de cuisson supplémentaire.

Vous pouvez aussi utiliser le mode manuel en sélectionnant la température de 130°C et le temps de cuisson selon la quantité et le type d'ingrédients : voir tableau ci-dessous.

<b>Temps de cuisson vapeur</b>			
<b>Ingrediénts</b>	<b>Quantités (max)</b>	<b>Temps de cuisson estimé</b>	<b>Programme vapeur préconisé</b>
Courgettes	800 g	20 min	P1
Panaïs	800 g	25 min	P1
Blancs de poireaux	800 g	25 min	P1
Brocolis	500 g	20 min	P1
Poissons	600 g (avec papier cuisson)	15 min	P1
Pommes de terre	1 kg	30 min	P2
Carottes	1 kg	30 min	P2
Haricots verts	800 g	30 min	P2
Viandes blanches	600 g (avec papier cuisson)	20 min	P2

**Certaines recettes peuvent provoquer des débordements intempestifs, en raison de l'apparition de bulles, en particulier lors de l'utilisation de légumes congelés. Dans ce cas, il vous appartient de réduire les volumes en conséquence.**



1- Appuyez directement sur le sélecteur représentant le paramètre que vous avez choisi de régler, c'est-à-dire le sélecteur vitesse (**B2**) ou le sélecteur température de cuisson (**B3**) ou le sélecteur temps (**B4**), le paramètre choisi clignote à l'écran (**C1-C2-C3**).



2- Ensuite réglez le(s) paramètre(s) à l'aide du sélecteur +/- (**B6**). Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de régler une température sans régler un temps de cuisson.



3- Lorsque vous avez fini de régler tous vos paramètres, appuyez sur le bouton "start" (**B7**). Lorsque votre appareil utilise le mode cuisson, le témoin lumineux rouge (**B3**) s'allume pour vous informer que la cuisson a démarré. Lorsque la programmation est lancée, vous avez la possibilité d'arrêter l'appareil à tout moment en appuyant sur le bouton "stop".

La programmation est alors en mode pause, vous avez la possibilité de la relancer en appuyant de nouveau sur "start". Si vous vous êtes trompé de programmation et si vous voulez annuler, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton "stop".

4- Lorsque la programmation est terminée, l'appareil émet 3 bips.

5- Appuyez sur les gâchettes (**D2**) puis soulevez l'ensemble bol (**D**) (Cf. Fig. 12).

### Fonctions Turbo / Pulse

1- Accédez directement depuis votre tableau de commandes (**B**) aux fonctions "turbo" et "pulse" (**B5**). Pour une utilisation en mode **turbo** (vitesse maximale en accès direct), il vous suffit de maintenir enfoncé le sélecteur "turbo". L'écran LCD affiche alors le temps d'utilisation (**C3**) pour vous assister. Pour une utilisation du **pulse** (marche intermittente), activez et arrêtez la fonction par simple pression du sélecteur "pulse". Ici également, l'écran LCD vous assiste en vous indiquant le temps d'utilisation. Lorsque la fonction est lancée, vous avez la possibilité d'arrêter l'appareil à tout moment en appuyant sur le bouton "stop". La fonction est alors en mode pause, vous avez la possibilité de la relancer en appuyant de nouveau sur "start".

## IMPORTANT : MISE EN SECURITE DE L'APPAREIL ("SECU")



**Votre appareil est équipé, de série, de protections électroniques du moteur afin d'en garantir sa longévité. Cette sécurité électronique vous garantit contre toute utilisation anormale ; ainsi votre moteur est parfaitement protégé.**

Dans certaines conditions d'utilisation très sévères, ou de recettes personnelles (Internet et autres...), ne respectant pas les recommandations de la notice (Cf. paragraphe "MISE EN SERVICE" : quantités éventuellement trop importantes et/ou une utilisation anormalement longue et / ou un enchainement de recettes trop rapprochées),

la protection électronique se déclenche pour préserver le moteur. Dans ce cas, l'appareil s'arrête et un affichage "SECU" apparaît dans l'écran LCD du tableau de commande pour indiquer que l'appareil n'est momentanément plus opérationnel.

**Si "SECU" s'affiche sur votre tableau de commandes et que votre appareil s'arrête, procédez comme suit :**

- Laissez votre appareil branché et l'interrupteur 0/1 sur la position 1 "ON" (interrupteur situé à l'arrière de l'appareil - repère H dans la notice).
- Référez-vous aux recommandations de la notice pour réadapter votre préparation (Cf. paragraphe "MISE EN SERVICE" : quantités d'ingrédients / temps de la recette / température / type accessoires).

- Attendez une demi-heure pour que le moteur refroidisse.
- Réinitialisez l'appareil en appuyant 2 secondes sur le bouton "Start / Stop / Reset" (repère B7 dans la notice).

Votre appareil est de nouveau totalement apte à l'emploi

Le service consommateur reste à votre disposition pour toute question (voir coordonnées dans livret de garantie).

## NETTOYAGE DE L APPAREIL

- L'appareil ne doit pas être immergé.  
**Ne passez pas le bloc moteur (A) sous l'eau courante.**

Une fois l'utilisation terminée, débranchez l'appareil.

- Nettoyez immédiatement votre bol après utilisation.
- Appuyez sur les gâchettes (**D2**) puis soulevez l'ensemble bol (**D**).
- Placez le bol sur une surface plane.
- Déverrouillez le couvercle en le tournant d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez le couvercle avec précaution.
- Les éléments du couvercle (joint, porte-joint et couvercle) sont démontables. Lorsque les pièces sont refroidies, déclipsez le porte-joint du couvercle en glissant l'extrémité du manche de la brosse de nettoyage (**I**) entre les deux éléments et exercez sans risque une pression pour les séparer (**Cf. Fig. 15**).
- Prenez des précautions avec les lames du couteau hachoir ultrablade (**F1**) et du couteau pour pétrir/concasser (**F4**) lorsque vous les nettoyez et lorsque vous videz le bol, elles sont extrêmement coupantes.
- Lorsque les pièces sont refroidies :
  - démontez l'entraineur commun (**D3**), le joint (**D4**), la bague de verrouillage (**D5**) (**Cf. Fig. 13**).
  - nettoyez le bol (**D**), l'entraineur commun (**D3**), le joint (**D4**), la bague de verrouillage (**D5**), les accessoires (**F1**), (**F2**), (**F3**), (**F4**), (**F5**), le bouchon régulateur de vapeur (**E1**), le couvercle (**E2**), le porte joint (**E3**), le joint d'étanchéité (**E4**), à l'aide d'une éponge et d'eau chaude savonneuse.

- Rincez ces différents éléments sous l'eau courante.
- En cas d'entartrage du bol ou de tâches vous pouvez utiliser le côté grattoir d'une éponge imbibée si nécessaire de vinaigre blanc, ou de produits d'entretien adaptés à l'acier inoxydable.
- En cas d'enrassement prononcé, laissez tremper pendant plusieurs heures avec de l'eau additionnée de liquide vaisselle et grattez si besoin avec la spatule (**G**) ou bien avec le coté grattoir d'une éponge.
- Pour nettoyer le bloc moteur (**A**), utilisez un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
- Pour vous faciliter le nettoyage, sachez que le bol, l'ensemble couvercle et les accessoires passent au lave vaisselle à l'exception de l'entraineur commun (**D3 et D4**) et de sa bague de verrouillage (**D5**) (**Cf. Fig. 14**).
- Les accessoires, l'entraineur commun amovible et les éléments du couvercle, peuvent se colorer légèrement avec certains ingrédients comme le curry, le jus de carottes, etc... ; cela ne représente aucun danger pour votre santé, ni pour le fonctionnement de votre appareil. Pour éviter cela, nettoyez les éléments rapidement après l'usage.
- Avant de réutiliser votre ensemble bol (**D**), assurez-vous que les contacts électriques sous le bol sont toujours propres et secs.
- Pour ne pas altérer les matériaux de l'entraineur commun, ne le laissez pas tremper dans l'eau trop longtemps.
- Pour ne pas altérer les matériaux du bol (**D**), veillez à respecter les consignes d'utilisation de votre lave-vaisselle, ne pas augmenter les doses de sel ou de produits pour lave-vaisselle.

## SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Cuisson insuffisante	<p>Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif, ils permettent dans la plupart des cas une cuisson satisfaisante.</p> <p>Néanmoins, certaines conditions vont influer sur le temps de cuisson :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la taille des aliments (coupés ou non coupés)</li> <li>- la quantité des ingrédients</li> <li>- la variété des légumes, leur maturité</li> <li>- si les ingrédients sont surgelés ou non ....</li> </ul>	<p>Ajouter un temps de cuisson supplémentaire en utilisant le sélecteur de durée de fonctionnement (B4).</p> <p>Réduisez la taille des morceaux.</p>
	Bouchon vapeur mal positionné ou absent	<p>Positionnez le bouchon vapeur dans le sens « maxi vapeur » vers vous, cette position permet de gagner un maximum de chaleur dans le bol pour toutes les cuissons (soupes, cuisson à la vapeur, etc.).</p> <p>Cette position évite également les éclaboussures pendant le mixage.</p> <p>La position “mini vapeur” permet de laisser échapper un maximum de condensation et ainsi obtenir des plats ou des sauces avec une meilleure consistance (Risotto, crèmes dessert, sauces, etc.)</p>
Cuisson vapeur insatisfaisante	Quantité inadaptée d'eau dans le bol. Morceaux trop gros.	<p>La quantité d'eau dans le bol doit correspondre à la graduation (0.7L).</p> <p>Vous pouvez aussi utiliser le mode manuel en sélectionnant la température de 120°C et le temps de cuisson selon la quantité et le type d'ingrédients.</p> <p>Réduisez la taille des morceaux.</p>
Difficultés pour réussir certaines recettes	Recettes inadaptées	Vos recettes, personnelles ou prises sur Internet peuvent ne pas être adaptées à votre appareil et à ses accessoires (quantités, temps de cuisson, durée, accessoires inadaptés) : avant de commencer votre recette, assurez vous que vous respectez les consignes d'utilisation indiquées dans ce mode d'emploi.
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise n'est pas branchée.	Branchez l'appareil sur une prise.
	L'interrupteur (H) est en position 0.	Basculez l'interrupteur en position 1.
	Le bol ou le couvercle ne sont pas correctement positionnés ou verrouillés.	Vérifiez que le bol ou le couvercle sont bien positionnés et verrouillés suivant les schémas de la notice.
Le couvercle ne se verrouille pas.	Le couvercle n'est pas complet.	Vérifiez que le joint est correctement assemblé sur le porte joint et que le porte joint est correctement assemblé sur le couvercle.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Vibrations excessives.	L'appareil n'est pas posé sur une surface plane, l'appareil n'est pas stable.	Placez l'appareil sur une surface plane.
	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
	Erreur d'accessoires.	Vérifiez que vous utilisez l'accessoire préconisé.
Léger bruit en fonctionnement	L'entraîneur de votre appareil peut émettre un bruit en fonctionnement à vitesse réduite ou avec certains ingrédients (riz...)	C'est un phénomène passager, qui n'a pas de conséquence sur la durée de vie de votre appareil. Il s'estompera ou disparaîtra après quelques usages et nettoyages de l'entraîneur commun amovible (reportez-vous au paragraphe «Nettoyage de l'appareil»).
Bruit excessif en fonctionnement	Utilisation d'un mauvais accessoire	Veillez à utiliser un accessoire adéquat (ex : n'utilisez pas le batteur F3 pour pétrir ou mélanger des pâtes, utilisez le couteau F4). Pour cela reportez-vous aux préconisations des recettes et aux consignes d'utilisation indiquées dans ce mode d'emploi.
Fuite par le couvercle.	Volume d'ingrédients trop important.	Réduisez la quantité d'ingrédients traités.
	Le couvercle n'est pas bien positionné ou verrouillé.	Verrouillez correctement le couvercle sur le bol.
	Le joint d'étanchéité n'est pas présent.	Positionnez le joint d'étanchéité sur le porte-joint et clipez l'ensemble sur le couvercle.
	Le joint d'étanchéité est coupé, détérioré.	Changez le joint, contactez un centre service agréé.
	Erreur d'accessoires.	Vérifiez que vous utilisez l'accessoire préconisé.
Fuite par l'entraîneur du bol.	Le joint n'est pas bien positionné.	Positionnez correctement le joint.
	Le joint est détérioré.	Contactez un centre service agréé.
	La bague de verrouillage (D5) est mal verrouillée.	Verrouillez correctement la bague (D5).
Les lames ne tournent pas facilement.	Morceaux d'aliments trop gros ou trop durs.	Réduisez la taille ou la quantité d'ingrédients traités. Ajoutez du liquide.
Odeur moteur.	A la première utilisation de l'appareil, ou bien en cas de surcharge moteur provoquée par une quantité d'ingrédients trop importante ou des morceaux trop durs ou trop gros.	Laissez refroidir le moteur (environ 30 minutes) et réduisez la quantité d'ingrédients dans le bol.

PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Affichage " STOP ".	L'appareil a détecté des vibrations trop importantes et s'est placé en position de sécurité.	Vérifiez que vous êtes à la vitesse préconisée ou que vous utilisez l'accessoire recommandé.
Affichage " SECU ".	Surcharge moteur provoquée par une quantité d'ingrédients trop importante ou des morceaux trop durs ou trop gros ou une succession de recettes sans suffisamment de temps de refroidissement.	Laissez refroidir le moteur (environ 30 minutes) et réduisez la quantité d'ingrédients dans le bol.
Affichage " SECU " + témoin lumineux rouge clignote.	Surchauffe capteurs de température.	Contactez un centre agréé.
Affichage " Err1 " + témoin lumineux rouge clignote.	La résistance chauffante ne fonctionne pas.	Vérifiez que les broches d'alimentations sous le bol ne sont pas encrassées. Si c'est le cas, nettoyez-les et réessayez. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez un centre agréé.
Affichage " Err2 ".	Défaut électronique.	Contactez un centre agréé.
Affichage " Err3 ".	Défaut vitesse.	Contactez un centre agréé.
Affichage " Err4 ".	Défaut communication avec carte électronique chopper.	Contactez un centre agréé.
Affichage " Err8 ".	Défaut capteur sécurité de verrouillage	Contactez un centre agréé.
Affichage " ntc1 " + témoin lumineux rouge clignote.	Le capteur 1 de température ne fonctionne plus.	Contactez un centre agréé.
Affichage " ntc2 " + témoin lumineux rouge clignote.	Le capteur 2 de température ne fonctionne plus.	Contactez un centre agréé.
Affichage du témoin de sécurité (C5) ⑥	Mauvais verrouillage du bol ou du couvercle	Avant de mettre en fonction l'appareil, vérifiez si le bol est correctement verrouillé sur le bloc moteur et si le couvercle est correctement verrouillé sur le bol. Si le problème persiste, contactez un centre agréé.
La sécurité de verrouillage du couvercle est restée active (tige sortie) et elle ne permet pas de verrouiller le couvercle.	L'appareil a été éteint en-cours de recette en basculant l'interrupteur I/O sur 0 ou simplement débranché en-cours de recette.	Il suffit de basculer l'interrupteur I/O sur I pour réinitialiser le robot et donc la sécurité de verrouillage du couvercle, la tige va automatiquement reprendre sa position d'origine, vous pouvez maintenant verrouiller le couvercle.

### Votre appareil ne fonctionne toujours pas ?

Adressez-vous à un centre service agréé (voir la liste dans le livret service).

## RECYCLAGE

- Elimination des matériaux d'emballage et de l'appareil



L'emballage comprend exclusivement des matériaux sans danger pour l'environnement, pouvant être jetés conformément aux dispositions de recyclage en vigueur.  
Pour la mise au rebut de l'appareil, se renseigner auprès du service approprié de votre commune.

- Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie :

**Participons à la protection de l'environnement !**



ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

⌚ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

## SAFETY INSTRUCTIONS:

### Personal safety

- EN**
- Read the instructions for use carefully before using your appliance for the first time and keep them in a safe place. The manufacturer shall not accept any liability in the event of any use that does not comply with the instructions.
  - Always disconnect the appliance from the power supply if you are to leave it unattended and before assembly, dismantling or cleaning. Do not allow children to use the appliance without supervision.
  - This appliance should not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
  - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.  
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - Keep your appliance out of reach of children.



- While your appliance is in use, some parts may reach high temperatures (stainless steel wall of bowl, detachable spindle, transparent parts of the lid and the cap, metal parts below the bowl, basket). They can cause burns. Handle the appliance by the cool plastic parts (handles, motor unit). The red heating indicator light shows that there is a risk of burning.
- The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in operation.
- The appliance is not intended to be operated using an external timer or by a separate remote control system.
- Do not use your appliance if it is not working properly, if it is damaged or if the power cord or plug is damaged. To avoid any danger have the cord replaced by an approved service centre (see list in the guarantee booklet).
- The appliance should not be immersed in water. Never put the motor unit (A) under running water.

- This appliance is designed for indoor household use only and at an altitude below 2000 m. The manufacturer shall not accept any liability and reserves the right to cancel the guarantee in the event of commercial or inappropriate use or failure to follow the instructions.
- This appliance is intended for indoor, domestic household use only. It is not intended to be used in the following applications and the guarantee will not apply for:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- On farms
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.



- Your appliance gives off steam which can cause burns. Handle the lid and the cap with caution (use oven gloves, potholder, etc. if necessary). Handle the cap by its central section.

- Never operate the appliance if the seal is not positioned on the seal holder or if the seal holder is not assembled on the lid. It is essential to operate the appliance with the cap positioned in the hole in the lid (unless specifically stated in the recipe).



**WARNING:** Be aware of the risk of injury in the event of incorrect use of the appliance.

Take care with the knives of the Ultrablade knife (F1) and the kneading & grinding blade (F4) when you are cleaning them and when you empty the bowl, they are extremely sharp. Be careful if a hot liquid is poured into the food processor because it could be ejected from the appliance due to it suddenly boiling.

Place the Ultrablade blade (F1) in the bowl after use.

**WARNING:** Be careful to avoid any spillage on the connector during cleaning, filling or pouring.

**WARNING :** Your appliance releases steam which can cause burns.

**WARNING:** The heating element surface is subjected to residual heat after use.

- Be sure to touch only the handles of your product (locks D2, handle of the lid E2 and handle of the cap E1) during heating and until completely cooled down.
- Refer to the instructions for setting the operating times and speed settings of each accessory and each programme.
- Refer to the instructions for assembly and fitting accessories to the appliance.
- Refer to the instructions for cleaning and maintenance of your appliance.
- Always follow the cleaning instructions on how to clean your appliance :
  - Unplug the appliance.
  - Do not clean the appliance while hot.

- Clean with a damp cloth or sponge.
- Never immerse the appliance in water or put it under running water.

#### **EUROPEAN MARKETS ONLY:**

- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.  
Children should not use the appliance as a toy.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or whose experience or knowledge is insufficient, as long as they have the benefit of supervision or they have received instructions regarding safe use of the appliance and they understand its potential dangers.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved.  
Cleaning and maintenance by the user should not be carried out by children without supervision unless they are at least 8 years of age and are supervised by an adult.

#### **Connection to the power supply**

- The appliance should be plugged in to an earthed electrical socket.
- The appliance is designed to work with alternating current only. Check that the supply voltage indicated on the rating plate of the

appliance corresponds to that of your electrical installation.

- Any connection error will negate the guarantee.
- Never pull on the power cord to unplug the appliance.
- Do not immerse the appliance, power cord or plug in any liquid.
- The power cord must never be left near or in contact with the hot parts of your appliance, near a source of heat or on a sharp edge.

#### **Incorrect use**

- Do not touch the lid before the appliance comes to a complete stop (stop button); wait until the food being mixed is no longer rotating.
- Always pour the solid ingredients into the bowl first before adding the liquid ingredients, without exceeding the 2.5 L MAX limit marked inside the bowl (See Fig. 11.). If the bowl is too full, boiling water may be ejected.
- Please note, in the steam cooking program, do not exceed 0.7 litres water (See Fig. 4.2).
- Never put your fingers or any other object in the bowl while the appliance is in operation.
- Do not use the bowl as container (storage, freezing, sterilisation).
- Place the appliance on stable flat, heat resistant, clean and dry surface.
- Do not place the appliance near a wall or a cupboard: the steam produced may damage the elements.
- Do not place your appliance near

a heat source in operation (hob, household appliance, etc.).

- Do not cover the lid with a dishcloth or other item, do not attempt to block the hole in the lid, use the steam regulator cap.
- Do not let hair, scarves, ties, etc. hang over the bowl while the appliance is in operation.
- Never put the accessories, bowl and lid in a microwave.
- Do not use the appliance outdoors.
- Never exceed the maximum quantity indicated in the instructions.
- Store the appliance when it has cooled down.
- Do not place the bowl in the freezer to cool it; use the refrigerator.

### After-sales Service

- For your own safety, do not use accessories or spare parts other than those provided by the approved after-sales centres.
- Any intervention other than cleaning and usual maintenance by the customer must be carried out by an approved service centre.
- Consult the table "What to do if your appliance does not work" at the end of the instruction manual.

EN

Thank you for choosing this appliance that is intended exclusively for the preparation of food in a domestic environment, within the household.

On reading this instruction manual, you will find recommendations for use, which will help you see the potential of your appliance: preparation of sauces, soups, stews, steamed dishes, pastries and desserts.

## APPLIANCE DESCRIPTION:

- A Motor unit
- B Control panel
  - B1: automatic program selection buttons
  - B2: speed selector
  - B3: cooking temperature selector and/or heating light indicator
  - B4: operating time selector
  - B5: turbo/pulse selector
  - B6: +/- selector
  - B7: start/stop/reset button
- C LCD screen
  - C1: speed display
  - C2: temperature display
  - C3: time display
  - C4: program selection display
  - C5: safety indicator display 
- D Bowl assembly
  - D1: stainless steel bowl
  - D2: locks (located under handles)
  - D3: detachable spindle
  - D4: bowl seal
  - D5: spindle locking ring
- E Lid assembly
  - E1: steam regulator cap/stopper
  - E2: lid
  - E3: seal holder
  - E4: lid seal
- F Accessories:
  - F0 : accessory storage box
  - F1: ultrablade chopping knife
  - F2: mixer
  - F3: whisk
  - F4: kneading and grinding blade
  - F5: steam basket
- G Spatula
- H On/Off Switch: marked 0/1 switches the power supply to your appliance
- I Cleaning brush

## APPLIANCE TECHNICAL DATA:

<b>Power:</b>	1550W (1000W: heating element / 550W: motor)
<b>Temperature range:</b>	30° to 130°C adjustable in steps of 5°C.
<b>Operating duration range:</b>	5 sec to 2 hours adjustable in steps of 5 sec min to 1 min max.
<b>Number of speeds: 12</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 intermittent speeds: speed 1 (5 sec On / 20 sec Off). speed 2 (10 sec On / 10 sec Off).</li><li>- 10 progressive continuous speeds (speeds 3 to 12).</li></ul>

## SWITCHING ON:

Your appliance is fitted with an On/Off switch (H), set the switch to on. (See Fig. 9)  
 You have the following accessories with your appliance:

Ultrablade knife	F1	Mixing soups Mixing fruit purees Chopping vegetables Chopping meat Chopping fish	12 12 12 12 12	3min 40 sec 15 sec 30 sec 15 sec	2,5L 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg	-->100°C -->100°C -->100°C -->100°C -->100°C
		!! Do not use this accessory to chop hard products, use the F4 kneading blade/crusher.				
		It mixes Cooked dishes without damaging the ingredients Very useful for browning phases (risottos, soups).				
Mixer	F2	Browned dishes Stews Risottos	3 1 2	5min 45min 22min	500g 2,5L 1,5Kg	130°C 95°C 95°C
		Ratatouille, Chutney, Pulses (settings: check the recipe booklet)				
Whisk	F3 !! 9 max	Whisking egg whites, Mayonnaise, Whipped cream Sauces, creams Mashed potato Polenta	7 7 4 to 7 6 to 7 4 to 5	5/10min 2/5min 1/20min 1min 1/16min	7 max 0,5L 1L 1L 1L	60>90°C 90°C
Kneading/grinding blade	F4	Kneading white bread dough Kneading short crust pastry, biscuit dough, speciality bread (rye, wholemeal, etc.) Kneading rich dough (brioche, kugelhopf etc.) Mixing light batters (cake mixture, etc.) Grinding nuts Grinding hard texture foods Crushing ice Pancake batter, waffle batter	5 5 + + 12 12 12 12	2min 30s 2min 30s 1min 30s 40 sec 1min 1min 1min 1min	1,2Kg 1Kg 0,8Kg 1Kg 0,6Kg 0,6Kg 6 to 10 1,5L	
Steam basket	F5	Steam cooking vegetables, fish or meat Soup with chunks		20/40min 40/45min	1Kg 2,5L	100°C 100°C
Cap/Stopper	E1	Cap/Stopper for regulating steam extraction - High steam setting (a) = steam cooking. - Low steam setting (b) = risotto, egg custard desserts, sauces, etc.		a b		

These accessories are also fitted with gripping areas to facilitate easier handling.

## YOUR APPLIANCE HAS 2 OPERATING MODES:

- **Automatic program mode:**

Speed, cooking temperature and duration are pre-programmed to make sauces, soups, stews, steamed dishes, pastry and desserts automatically.

- **Manual mode:**

You can manually set the speed, cooking temperature and duration.

## YOUR APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A SAFETY-LOCKING LID

The lid is secured each time you start the appliance. This safety feature stops the lid from opening while preparing a recipe (fig. 16).

**Do not attempt to force the lid open when it is locked in place.**

This safety feature is released is time the appliance is switched off. If you have selected a temperature higher or equal to 50°C and a speed greater or equal to 5, a 10-second timer appears on the control panel LCD display. (Fig. 17).

You cannot open the lid until the end of the timer.

## INSTALLING THE BOWL, ACCESSORIES AND THE LID ASSEMBLY

- Before using for the first time, wash all items (D, E, F, G) in warm soapy water, but not the motor unit (A). Your bowl (D) is fitted with a detachable spindle (D3) for easier cleaning.
- Ensure that all packaging has been removed before use, particularly the protection located between the bowl (D) and the motor unit (A).
- Fit the seal (E4) on the seal holder (E3) (See Fig. 1), clip the assembly to the lid (E2) (See Fig 2).
- Position the seal (D4) on the spindle (D3). Lock the assembly onto the base of the bowl with the locking ring (D5) (See Fig. 3).
- Position the chosen accessory in the bowl:
  - the accessories (F1, F2, F3, or F4) fit on the spindle (See Fig. 4.1),
  - the steam basket inside the bowl (F5), (See Fig. 4.3 ), having taken care beforehand to fill the bowl (F5) with 0.7l liquid (water,sauce...) (See Fig. 4.2).

- Place the ingredients into the bowl or steam basket.

• Position the lid with the arrow on the lid handle on the left side. Align the triangle on the lid with the triangle on the bowl handle (See Fig. 5). Lock the lid by turning anticlockwise (See Fig. 6).

- Position the steam regulator cap (E1) on the lid; two positions are possible: high steam (a) or low steam (b).



**The low steam setting allows a maximum amount of condensation to be released and therefore it is recommended to prepare dishes and sauces for a better consistency (risotto, egg custard desserts, sauces, etc.).**



**The high steam setting allows a maximum amount of heat and steam to build up in the bowl for all types of steam cooking (soups, etc.).**

**This setting also prevents splashing during mixing.**

- Position the bowl (D) on the motor unit (A) until you hear a "click" (See Fig. 8).
- The appliance only starts up if the bowl and the lid are correctly positioned and locked on the motor unit.

**In the event of incorrect positioning or incorrect locking of either (See Fig. 10.1 and 10.2), the logo (G) starts to flash when a function is activated.**

## USING THE CONTROL PANEL (B)

### Selecting an automatic program:



Sauces



Steam cooking  
(P1 gentle steam / P2 high steam)

EN



Soups  
(P1 for smooth soup / P2 for soup with a coarser texture.)



Pastry  
(P1 for bread / P2 for brioche / P3 for cake)



Slow cook (stews)  
(P1 for vegetable stews / P2 for meat and poultry stew / P3 for risotto)



Desserts

### Selecting custom settings:



Selecting the motor speed.  
2 intermittent speeds (Speed 1 & 2) and 10 continuous progressive speeds (Speed 3 to 12)



Increase speed, cooking temperature and duration.  
Decrease speed, cooking temperature and duration.



Selecting cooking temperature  
From 30° to 130°C.  
Heating indicator light: it lights up when cooking starts and switches off when the temperature inside the bowl falls to below 50°C.



This button has 3 functions:  
- “Validation” of the choice of your automatic program or your settings chosen in the context of manual use (speed, cooking temperature time).



Selecting operating time.  
From 5 sec to 2 hours.

- “Pause” during use, once the appliance has been started up.



Selecting the **turbo** functions (continuous maximum speed) and **pulse** (intermittent operation) without using other settings.

- “Reset” of the settings selected on the appliance by pressing for 2 seconds.

### Tips for use:

Your appliance is fitted with a microprocessor that controls and analyses its stability. In the event of instability, the motor rotation speed will be automatically reduced, if this instability continues, the motor will be stopped and “STOP” will be displayed on the screen. If this happens:

- Check that the quantity of ingredients is not too large and that the speed used is the correct one.
- Check that you are using the recommended accessory.
- Then restart your appliance normally.

## USING THE APPLIANCE

Plug in the appliance, set the On/Off switch (**H**) to 1, and the LCD screen (**C**) displays all settings at "0" (See Fig. 9)

EN

### AUTOMATIC PROGRAM MODE



- 1- Press the program of your choice (**B1**), a triangle appears on the screen (**C4**). In the case of the soups, slow cook, steam and pastry programs, successively pressing the program button takes you to the different sub-programs.



- 2- The pre-programmed settings can be modified for the time of a recipe (depending on the chosen recipe, ingredients and quantities prepared). Press the speed selector (**B2**) or the cooking temperature selector (**B3**) or the time selector (**B4**), the setting chosen will flash on the screen (**C1-C2-C3**).



- 3- Adjust the setting(s) using the +/- selector (**B6**).



- 4- When you have finished modifying all your settings, press the "start" button (**B7**) to start the program. When your appliance is using cooking mode, the red indicator light (**B3**) lights up to inform you that cooking has started.

- 5- When the program has ended, the appliance emits 3 beeps.

- 6- At the end of the sauce, soup, slow cook programs **P2** and **P3**, steam cooking and desserts, the appliance automatically changes to keep warm mode for 45 minutes to maintain the preparation ready for serving.

In the 'sauces' program, **P2** and 'slow cook' **P3** program, desserts and manual mode, the appliance motor functions at a specific speed, in order to preserve the preparation and avoid it sticking to the bottom of the bowl.

To stop keep warm mode, simply press the "stop" button (**B7**). If you open the lid, press the locks (**D2**) or remove the bowl and keep warm mode will be automatically stopped.

At the end of the sauce programs, slow cook **P2** and **P3** and the dessert program; during the keeping warm function, the motor will continue to operate so that the ingredients do not stick to the bottom of the bowl.

At the end of kneading in the pastry programs **P1** and **P2**, the appliance changes to "dough rising" mode at 30°C for 40 minutes for your dough to prove. If you open the lid, press the locks (**D2**) or remove the bowl, the appliance changes to pause mode and you have the possibility of restarting it by pressing "start" again. If you wish to stop this mode, press and hold the "stop" button for 2 seconds.

- 7- Press the locks (**D2**) and then remove the bowl assembly (**D**) (See Fig. 12).

When the automatic program has started up, you have the possibility of stopping the appliance at any time by pressing the "stop" button. The automatic program is then in pause mode, you have the possibility of restarting by pressing the "start" button again. If you have chosen the wrong program and if you want to cancel it, press and hold the "stop" button for 2 seconds.

**DISCOVER THE AUTOMATIC PROGRAMS AVAILABLE:**

		Sauce	Soup P1	Soup P2	Slow cook P1	Slow cook P2	Slow cook P3
Automatic programs							
Accessories							
Default speed (adjustable)		Speed 6 (speed 2 to speed 8)	10 pulses and S12 for 2 min	S7 to S10 for 30 s	<b>S3</b>	<b>S1</b>	<b>S2</b>
Default temperature (adjustable)		70°C (50°C to 100°C)	100°C (90°C to 100°C)	100°C (90°C to 100°C)	130°C (non-adjustable)	95°C (80°C to 100°C)	95°C (80°C to 100°C)
Default processing time (adjustable)		8 min (5 min to 40 min)	40 min (20min to 60 min)	45 min (20 min to 60 min)	5 min (2 min to 15 min)	45 min (10 min to 2hr)	20 min (10 min to 2hr)
Keep warm function (at the end of the program)		45 min	45 min	45 min		45 min	45 min
Motor speed on keep warm program		speed 4				5s ON at speed 3 / 20s OFF	10s ON at speed 3 / 10s OFF

		Steamed dishes P1	Steamed dishes P2	Pastry P1	Pastry P2	Pastry P3	Dessert
Automatic programs							
Accessories							
Default speed (adjustable)				S5 for 2 min 30 s	S5 for 1 min 30 s and then S6 for 2 min	S3 for 40 s and then S9 for 3 min	Speed 4 (speed 2 to speed 8)
Default temperature (adjustable)		100°C (non-adjustable)	100°C (non-adjustable)				90°C (50°C to 110°C)
Default processing time (adjustable)		30 min (1 min to 60 min)	35 min (1 min to 60 min)	2 min 30 sec (30 sec to 2 min 30sec)	3 min 30 sec (30 sec to 3 min 30 sec)	3 min 40 sec (1 min 40 sec to 3 min 40 sec)	15 min (5 min to 60 min)
Keep warm function (at the end of the program)		45 min	45 min				45 min
Motor speed on keep warm program				40 min	40 min		speed 4

## USING THE STEAM BASKET

The cooking times below are only approximate and intended as a guide.

EN

The exact cooking time will depend on:

- size of the vegetables (cut or uncut)
- quantity of ingredients in the basket
- type of vegetables, their ripeness
- quantity of water in the bowl, which corresponds to the measurement (0.7l).

and fit it in in the bowl. Secure the lid and remember to use the steam regulator cap with the "maxi steam" (a) facing towards you.

Do not overload the steam basket with food so the steam is able to circulate.

If the food is not properly cooked, you can set an additional cooking time.

Fill the bowl with 0.7 litres of water (see Fig. 4.2). Fill the steaming basket (F5) with food

You can also use the manual mode by selecting a temperature of 130°C and the cooking time according to the quantity and type of ingredients: see table below.

Steam cooking time			
Ingredients	Quantities (max)	Approx. steam cooking time (for fresh ingredients)	Recommended steam program
Courgettes (sliced)	800 g	20 min	P1
Parsnips (sliced or cubed)	800 g	25 min	P1
White part of the leek (sliced)	800 g	25 min	P1
Broccoli (florets)	500 g	20 min	P1
Fish (thick fillets or steaks)	600 g (wrapped in baking paper)	15 min	P1
Potatoes (small whole new)	1 kg	30 min	P2
Carrots (sliced)	1 kg	30 min	P2
Green beans	800 g	30 min	P2
White meat (chicken breast fillets, skinless & boneless)	600 g (wrapped in baking paper)	20 min	P2

Some recipes may cause unexpected overflow due to the formation of bubbles, particularly when using frozen vegetables. In this case, you should reduce the quantity accordingly.

## MANUAL MODE



1-Press directly on the button for the setting you want to adjust, i.e. the speed selector (B2) or the cooking temperature selector (B3) or the time selector (B4), the chosen setting flashes on the screen (C1-C2-C3).



2- Then adjust the setting(s) using the +/- selector (B6). For safety reasons, it is not possible to set a temperature without setting a cooking time.



3- When you have finished entering all your settings, press the "start" button (B7). When your appliance is using cooking mode, the red indicator light (B3) lights up to inform you that cooking has started. When the program has started, you have the possibility of stopping the appliance at any time by pressing the "stop" button.

The program is then in pause mode and you have the possibility of restarting by pressing "start" again. If you have chosen the wrong program and if you want to cancel it, press and hold the "stop" button for 2 seconds.

EN

4- When the program has ended, the appliance emits 3 beeps.

5- Press the locks (D2) and then remove the bowl assembly (D) (See Fig. 12).

### Turbo / Pulse functions

1- Use the control panel (B) to directly access the "turbo" and "pulse" functions (B5). To use in turbo mode (continuous maximum speed), simply press and hold the "turbo" selector. The LCD screen then displays the time in use (C3) to help you. To use the pulse (intermittent operation), simply press the "pulse button" selector. The LCD screen helps you by indicating the time in use. When the function has started up, you have the possibility of stopping the appliance at any time by pressing the "stop" button. The function is then in pause mode, you have the possibility of restarting by pressing the "start" button again.

## IMPORTANT - 'MAKING YOUR APPLIANCE SECURE' INSTRUCTIONS ('SECU')



Your appliance is equipped, as standard, with electronic motor protection to guarantee its longevity. This electronic security safeguards against incorrect use; in this way, the motor is properly protected.

In cases of extreme use which disregard the recommendations in the instructions (see paragraph 'FIRST USE': potentially excessively large quantities and/or abnormally long use and/or preparing different recipes at short intervals), the electronic protection will be triggered to preserve the motor; in this case, the appliance will stop functioning and the message 'SECU' will be displayed on the LCD screen of the control panel to indicate that the appliance is temporarily out of service.

If 'SECU' is displayed on the control panel and your appliance stops working, proceed accordingly:

- Leave your appliance plugged in, do not press the '0/1' switch.
- Please refer to the recommendations in the instructions and readapt your use of the appliance (see table page 6: amount of ingredients/recipe preparation time/temperature/type of accessories).
- Allow the motor to cool down for half an hour.
- Restart the appliance by pressing on the 'Start /Stop/Reset' button (B7) for two seconds.

Your appliance is now ready to be used again. For further information, please contact customer services (see details in the guarantee booklet).

## CLEANING YOUR APPLIANCE

EN

- The appliance should not be immersed. Never put the motor unit (A) under running water.  
Once you have finished using it, disconnect the appliance.
- Clean the bowl immediately after use to avoid staining.
- Press the locks (D2) then lift the bowl assembly (D).
- Place the bowl on a flat surface.
- Unlock the lid by rotating one quarter of a turn clockwise. Carefully remove the lid.
- The elements of the lid (seal, seal holder and lid) are removable. When the parts are cooled down, unclip the seal holder of the lid by sliding the end of the cleaning brush handle (I) between the two parts to separate them (See Fig. 15).
- Take care with the knives of the ultrablade blade (F1) and the kneading / grinding knife (F4) when you are cleaning them and when you empty the bowl, they are extremely sharp.
- When the parts have cooled down:
  - dismantle the spindle (D3), the seal (D4) and the locking ring (D5) (See Fig. 13).
  - clean the bowl (D), the spindle (D3), the seal (D4), the locking ring (D5), the accessories (F1), (F2), (F3), (F4), (F5), the steam regulator cap (E1), the lid (E2), the seal holder (E3) and the seal (E4) using a sponge and some soapy water.
- Rinse these different parts under running water.
- If there is a build up of limescale in the bowl, use a damp sponge and, if necessary, white vinegar or cleaning products suitable for stainless steel.
- For food stuck in the bowl, leave the bowl to soak for several hours in water with a little washing up liquid and dishwashing detergent and scrape, if necessary, with a spatula (G) or with the abrasive side of a sponge.
- To clean the motor unit (A), use a damp cloth. Dry carefully.
- To help you with cleaning, the bowl, lid assembly and accessories are dishwasher safe, with the exception of the spindle (D3 and D4) and its locking ring (D5) (See Fig. 14).
- The accessories, the detachable spindle and the parts of the lid may become slightly discoloured with certain ingredients such as curry, carrot juice, etc; this does not represent any danger for your health or for the operation of your appliance. To avoid this, clean these parts immediately after use.
- Before using the bowl (D), make sure that the electrical contacts under the bowl are clean and dry.
- To avoid altering the bowl's materials (D), ensure that you follow your dish-washer instructions, and do not increase the recommended amount of salt or dish-washing products.

## WHAT TO DO IF YOUR APPLIANCE DOES NOT WORK

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Problems when steam cooking.	Insufficient cooking time.	<p>Cooking times are only a guide and approximate. However, certain conditions may affect the cooking time:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- size of the vegetables (cut or uncut)</li> <li>- quantity of ingredients in the basket</li> <li>- type of vegetables, their ripeness</li> <li>- quantity of water in the bowl, which corresponds to the measurement (0.7l).</li> </ul> <p>If the food is not properly cooked, you can set an additional cooking time.</p> <p>You can also use the manual mode by selecting a temperature of 130°C and the cooking time according to the quantity and type of ingredients.</p>
	The steam regulator cap is not properly positioned or is missing.	<p>Set the steam regulator cap to 'maxi steam' (turn towards you); this setting allows a maximum amount of steam to build up in the bowl for all types of steam cooking (soups, etc.), so there will be more steam in the bowl and the cooking process will be more efficient. This position also helps to avoid splashing during cooking. The 'mini steam' position allows a maximum amount of condensation to escape and is recommended when making sauces and dishes such as risotto, egg custard desserts, etc.</p>
Poor cooking results in Manual mode	Unsuitable recipes	Your recipes, either personal or taken from the Internet may not be suited to your appliance and its accessories (quantities, cooking time, duration, inadequate accessories). Before starting your recipe, make sure you follow the instructions of use provided in this manual.
The appliance does not work.	<p><b>It is not plugged in.</b></p> <p><b>The switch (H) is in position 0.</b></p> <p>The bowl or the lid are not correctly positioned or locked.</p>	<p>Plug the appliance into an electrical socket.</p> <p>Move the switch to position 1.</p> <p>Check that the bowl or the lid are correctly positioned and locked according to the diagrams in the instruction manual.</p>
The lid does not lock.	The lid is not fully assembled.	Check that the seal is correctly assembled on the seal holder and that the seal holder is fully pushed onto the lid in all places.
Excessive vibration.	The appliance is not positioned on a flat surface, the appliance is not stable.	Place the appliance on a flat surface.
	Volume of ingredients too high.	Reduce the quantity of ingredients processed.
	Accessory error.	Check that you are using the recommended accessory.
Slight noise during operation	The spindle of your appliance may create a noise during operation at reduced speed or with the use of certain ingredients (rice...)	This is a temporary phenomenon, which has no consequences on the life of your appliance. It will fade or disappear after a few uses and cleaning operations of the removable spindle (refer to the paragraph "Cleaning the appliance").

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
Excessive noise during operation	The use of a wrong accessory	Please use an adequate accessory (e.g.: do not use the beater F3 for kneading or mixing the dough, use the knife F4). For this, refer to the recommendations in the recipes and the operating instructions provided in this manual.
Leak through lid.	Volume of ingredients too high.	Reduce the quantity of ingredients processed.
	The lid is not correctly positioned or locked.	Lock the lid correctly on the bowl.
	The lid seal is not present.	Position the seal on the seal holder and clip the assembly to the lid.
	The lid seal is cut or damaged.	Change the seal, contact an approved service centre.
	Accessory error.	Check that you are using the recommended accessory.
Leak through the bowl spindle.	The bowl seal (D4) is not correctly positioned.	Position the seal correctly.
	The bowl seal is damaged.	Contact an approved service centre.
	The locking ring (D5) is not locked correctly.	Lock the ring correctly (D5).
The blades do not rotate easily.	Pieces of food that are too big or too hard.	Reduce the size or quantity of the ingredients processed. Add some liquid.
Smell from motor.	On using the appliance for the first time, or in the event of overload of the motor caused by too large a quantity of ingredients or by pieces that are too hard or too big.	Allow the motor to cool down (about 30 minutes) and reduce the number of ingredients in the bowl.
"STOP" is displayed.	The appliance has detected too many vibrations and has changed to the safety mode.	Check that you are at the right speed and that you are using the recommended accessory.
"SECU" is displayed.	Motor overload caused by too many ingredients or pieces which are too hard or too large or overuse without sufficient cooling down time.	Allow the motor to cool down (about 30 minutes) and reduce the number of ingredients in the bowl.
"SECU" is displayed + red indicator light is flashing.	Overheating of temperature sensors.	Contact an approved service centre.
"Err1" is displayed. + red indicator light is flashing.	The heating element is not working.	Check that the power pins under the bowl are not clogged. If this is the case, clean them and try again. If that still does not work, contact an approved service centre.
"Err2" is displayed.	Electronic fault.	Contact an approved service centre.
"Err3" is displayed.	Speed fault.	Contact an approved service centre.
"Err4" is displayed.	Communication fault with chopper electronic card.	Contact an approved service centre.
Displays "Err8"	Safety-lock sensor fault	Contact an approved service centre
"ntc1" is displayed. + red indicator light is flashing.	Temperature sensor 1 is no longer working.	Contact an approved service centre.

"ntc2" is displayed. + red indicator light is flashing.	Temperature sensor 2 is no longer working.	Contact an approved service centre.
Display of the safety indicator (C5) 	Lid or bowl not correctly locked in po- sition	Before you turn on the appliance, check if the bowl is properly locked on the motor unit and the lid is correctly locked on the bowl. If the problem persists, Contact an ap- proved service centre. centre.
The safety lock on the lid remained active (rod extended) and prevents the lid from locking.	The appliance was turned off as a re- cipe was in progress by toggling the I/O switch to the "O" position or was simply unplugged as a recipe was in progress.	Simply toggle the I/O switch to the "I" position to reset the food processor, along with the safety lock on the lid; the rod will automatically return to its original position. You may now lock the lid.

### Is your appliance still not working?

Contact an approved service centre (see list in service booklet).

## RECYCLING

- Elimination of packaging and appliance materials.

The packaging exclusively contains materials that are not dangerous to the environment, which can be disposed of in accordance with the recycling regulations in force.



To dispose of your appliance, ask the appropriate department of your local authority.

- End-of-life electronic or electrical appliances:



### Environmental protection first!

- ➊ Your appliance contains numerous materials that can be recovered or recycled.
- ➋ Take it to a collection point for processing.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

### Voor uw persoonlijke veiligheid

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor het eerste gebruik en bewaar ze zorgvuldig: Niet-naleving ontheft de fabrikant van alle aansprakelijkheid.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het apparaat zonder toezicht laat en voordat u het monteert, demonteert, of schoonmaakt. Laat kinderen dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Bewaar dit apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (of kinderen) met verminderde, fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of personen die te weinig ervaring of kennis hebben tenzij ze onder de supervisie staan van een persoon die voor hen verantwoordelijk is of als ze genoeg richtlijnen gekregen hebben om het apparaat correct te hanteren.

Er moet toezicht op kinderen zijn, zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Tijdens het gebruik van het apparaat kunnen bepaalde onderdelen zeer warm worden

(wand van de roestvrijstalen kom, afneembare aandrijfjas, doorzichtige delen van het deksel en de dop, metalen delen onder de kom,

stoommand). Deze zeer warme onderdelen kunnen brandwonden veroorzaken. Houd het apparaat vast aan de koude, plastic onderdelen (handvatten, motorblok). Het rode controlelampje geeft aan dat er gevaar voor verbranding bestaat.

- De bereikbare oppervlakken van het apparaat kunnen zeer warm worden tijdens het gebruik.
- Het apparaat is niet ontworpen om met een externe timer of afstandsbediening te worden bestuurd.
- Gebruik uw apparaat niet als het niet correct werkt of als het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, dient u het netsnoer door een erkend service center te laten vervangen (zie bijgevoegde lijst).
- Houd het apparaat nooit onder de kraan. Houd het motorblok (A) niet onder stromend water.
- Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en op een hoogte van minder dan 2000 m. De fabrikant is niet verantwoordelijk en behoudt zich het recht voor de garantie te annuleren in geval van commercieel of oneigenlijk gebruik of niet-naleving van de instructies.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in huishoudelijke of analoge toepassingen (gebruik dat niet onder de garantie valt) zoals
  - in keukens van winkels, kantoren



en andere werkomgevingen.

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
- door de gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen.



- Uw apparaat geeft hete stoom af die brandwonden kan veroorzaken. Ga voorzichtig om met

**het deksel en de dop** (gebruik indien nodig een handschoen, een pannenlap ... ). Houd de dop vast aan het middelste gedeelte.

- Gebruik het apparaat nooit als de afdichtingsring niet op de afdichtingsringhouder en de afdichtingsringhouder niet op het deksel is geplaatst. U moet de dop op de opening in het deksel plaatsen voor gebruik (tenzij anders vermeld in het recept).

**WAARSCHUWING :** let op voor verwondingen door verkeerd gebruik van het apparaat.

Wees voorzichtig wanneer u de messen van het ultrablade-hakmes (F1) en van het mes om te kneden/hakken (F4) schoonmaakt en de kom leegt. De messen zijn zeer scherp.

Wees voorzichtig wanneer u een warme vloeistof in de keukenmachine giet. De vloeistof kan uit het apparaat sputten wanneer haar kookpunt wordt bereikt.

Berg het ultrablade hakmes (F1) op in de kom na elk gebruik.

**WAARSCHUWING:** Ga voorzichtig te

werk als u het apparaat hanteert (reinigen, vullen en uitgieten): zorg ervoor dat er geen vloeistof op de contacten terechtkomt.

**WAARSCHUWING:** Uw apparaat geeft stoom af die brandwonden kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Het oppervlak van het verwarmingselement blijft na gebruik nog even warm.

Raak tijdens het opwarmen en tot alles volledig is afgekoeld enkel de handgrepen van uw product aan (ontgrendelknoppen D2, handgreep van het deksel E2 en van de stoomregeldop E1).

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het instellen van de werkingssnelheid en -tijd van elk accessoire en elk programma.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het monteren en demonteren van de accessoires op het apparaat.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor het reinigen en onderhouden van uw apparaat.

Volg voor de reiniging van uw apparaat steeds de reinigingsinstructies:

- Het apparaat uitschakelen.
- Niet reinigen als het apparaat nog warm is.
- Reinigen met een vochtige doek of spons.
- Het apparaat nooit in water onderdompelen of onder stromend water houden.

**UITSLUITEND VOOR DE EUROPESE MARKT:**

- Bewaar het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, mentale of zintuiglijke capaciteiten of personen die te weinig ervaring of kennis hebben als ze onder toezicht staan of als ze richtlijnen hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen hanteren en zich bewust zijn van de risico's.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht staan of als ze richtlijnen hebben gekregen om het apparaat veilig te kunnen hanteren en zich bewust zijn van de risico's. De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan van een volwassene.

### Ten aanzien van de elektrische aansluiting

- U moet de stekker van het apparaat in een geraad stopcontact steken.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt om op wisselstroom te werken. Controleer of de voedingsspanning op de gegevensplaat van het apparaat overeenkomt met de spanning van uw elektrische installatie.
- Als u het apparaat niet correct aansluit, vervalt de garantie.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te trekken.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in vloeistof.
- Laat het netsnoer niet in aanraking komen met of in de buurt hangen van de warme onderdelen van het apparaat of van een warmtebron. Laat het snoer ook niet over scherpe randen hangen.

### Ten aanzien van verkeerd gebruik

- Raak het deksel niet aan voordat het apparaat volledig tot stilstand is gekomen ('stop'-knop), wacht tot de gemixte ingrediënten tot stilstand zijn gekomen.
- Doe altijd eerst de vaste ingrediënten in de kom en voeg daarna de vloeibare ingrediënten toe. Respecteer altijd de aanduiding 2,5 L MAX aan de binnenkant van de kom (Cf. Fig. 11). Als de kom te vol is, kan er kokend water uit sputten.
- Let op! Respecteer het niveau van 0,7 L water dat wordt aangegeven in het stoomkookprogramma (zie Fig.4.2).
- Steek nooit uw vingers of andere voorwerpen in de kom wanneer het apparaat in werking is.
- Gebruik de kom niet om ingrediënten te bewaren, in te vriezen, te steriliseren...
- Zet het apparaat op een stabiel, hittebestendig, schoon en droog werkvlak.
- Zet het apparaat niet naast een muur of kast: de geproduceerde stoom kan de elementen beschadigen.
- Plaats uw apparaat niet in de buurt van een ingeschakelde warmtebron

(kookplaat, huishoudapparaat ...).

- Bedek het deksel niet met een doek of een ander voorwerp, stop de in het deksel niet dicht, gebruik hiervoor de stoomregelknop.
- Zorg ervoor dat er geen lang haar, sjaals, stropdassen etc boven de kom hangen wanneer het apparaat in werking is.
- Plaats de accessoires nooit in de magnetron.
- Het apparaat niet in de open lucht gebruiken.
- Overschrijd nooit de maximale hoeveelheid die wordt aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Berg het apparaat op wanneer het is afgekoeld.
- Plaats de kom niet in de diepvriezer om hem af te koelen, gebruik de koelkast.

NL

## Service Center

- Voor uw eigen veiligheid dient u geen andere accessoires of onderdelen te gebruiken dan die door de erkende service centers worden geleverd.
- Elke handeling anders dan gewone onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden dient door een erkend service center te worden uitgevoerd.
- Raadpleeg de tabel "Uw apparaat werkt niet. Wat nu?" aan het einde van de gebruiksaanwijzing.

Hartelijk dank voor het kiezen van dit apparaat, dat exclusief is bestemd voor het bereiden van levensmiddelen in een huishoudelijke omgeving.

NL

In deze handleiding vindt u enkele gebruikstips om optimaal van de mogelijkheden van uw apparaat gebruik te maken: sauzen, soepen, stoofschotels, stoombereidingen, deeg en desserten.

## BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT:

A Motorblok

B Bedieningspaneel

- B1: automatische programmakeuzeknoppen
- B2: snelheidsschakelaar
- B3: temperatuurschakelaar en/of verwarmingscontrolelampje
- B4: werkingsduur-schakelaar
- B5: 'turbo/pulse'-schakelaar
- B6: '+/-'-schakelaar
- B7: 'start/stop/reset'-knop

C LCD-scherm

- C1: display snelheid
- C2: display temperatuur
- C3: display tijd
- C4: display programmaselectie
- C5: display beveiligingscontrolelampje 

D Kom

- D1: roestvrijstalen kom
- D2: trekkers
- D3: afneembare aandrijfjas
- D4: afdichtingsring
- D5: vergrendelingsring

E Deksel

- E1: stoomregeldop
- E2: deksel
- E3: afdichtingsringhouder
- E4: afdichtingsring

F Accessoires:

- F0: opbergdoos voor accessoires
- F1: ultrablade hakmes
- F2: menger
- F3: klopper
- F4: mes om te kneden/hakken
- F5: stoommand

G Spatel

H '0/1'-schakelaar om de stroomtoevoer af te sluiten

I Schoonmaakborstel

## TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET APPARAAT:

**Vermogen:** 1550W (1000W : verwarmingselement / 550W : motor )

**Temperatuurbereik:** van 30° tot 130°C  
regelbaar per 5°C.

**Bereik werkingsduur:** van 5 s tot 2 uur  
regelbaar per 5 s minimaal en 1 min maximaal.

**Aantal snelheden: 12**

- 2 intermitterende snelheden:  
snelheid 1 ( 5 s On / 20 s Off ).  
snelheid 2 ( 10 s On / 10 s Off ).
- 10 continue, progressieve snelheden  
(snelheden 3 tot 12).

## INGEBRUIKNAME:

Uw apparaat is voorzien van een '0/1'-schakelaar, schuif de schakelaar naar stand 1.  
(Cf. Fig. 9)Uw apparaat is voorzien van de volgende accessoires:

HAKMES		Soepen mixen Compotes mixen Groenten hakken Vlees hakken Vis hakken		3min 40s 15s 30s 15s	2,5L 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg	-->
MENGER		Mengt de <b>Bereide schotels</b> zonder de ingrediënten te beschadigen, Zeer nuttig voor de bruinbakfase van bepaalde gerechten (risotto, soepen).		Bradschotels Stoofschotels Risotto	5min 45min 22min	500g 2,5L 1,5Kg
KLOPPER		Eiwitten Mayonaise Sauzen, crèmes Aardappelpuree Polenta		7 7 4 tot 7 6 tot 7 4 tot 5	5/10min 2/5min 1/20min 1min 1/16min	max. 0,5L 1L 1L 1L
MES OM TE KNEDEN/HAKKEN		Witbrooddeeg kneden Kruimeldeeg, zout deeg, speciaal brooddeeg kneden Zware deeg kneden (brioche, tulband...) Licht deeg mengen (cake...)		5 5 + +	2min 30s 2min 30s 1min 30s 40s 3min	1,2Kg 1Kg 0,8Kg 1Kg
STOOMBAND		Stoombereidingen van groenten, vis of vlees Soepen met stukjes			20/40min 40/45min	1Kg 2,5L
DOP		Stoomregeldop			a b	- Stoomstand maxi (a) = stoomkoken. - Stoomstand mini (b) = risotto, roomdesserts, sauzen enz.

Deze accessoires zijn tevens voorzien van grepen voor een eenvoudigere hantering.

NL

## **NL** UW APPARAAT IS VOORZIEN VAN 2 WERKWIJZEN:

- **Automatische stand:**

Snelheid, kooktemperatuur en -tijd zijn automatisch voorgeprogrammeerd om sauzen, soepen, stoofschotels, stoombereidingen, deeg en desserts te maken.

- **Handmatige stand:**

Personlijke instellingen van de parameters snelheid, kooktemperatuur en -tijd voor een gebruik dat aangepast is aan uw voorkeuren.

## **NL** UW APPARAAT IS UITGERUST MET EEN DEKSELVERGRENDELING

Het deksel wordt bij elke inschakeling van het apparaat vergrendeld. Deze beveiliging belet het openen van het deksel tijdens het bereiden van een recept (**Afb. 16**).

**Oefen geen druk op het deksel uit wanneer het vergrendeld is.**

Het deksel wordt opnieuw ontgrendeld zodra het apparaat stopt met werken.

Als u een temperatuur hoger dan of gelijk aan 50°C en een snelheid hoger dan of gelijk aan 5 hebt geselecteerd, worden er eerst 10 seconden op het LCD-scherm van het bedieningspaneel ageteld. (**Afb.17**).

U kunt het deksel pas openen eenmaal het aftellen is beëindigd.

## MONTAGE VAN DE KOM, DE ACCESSOIRES EN HET DEKSEL

- Maak alle elementen (D, E, F, G), uitgezonderd het motorblok (A), met warm water en afwasmiddel schoon voor het eerste gebruik. Uw kom (D) is voorzien van een afneembare aandrijfjas (D3) om het schoonmaken te vergemakkelijken.

- Vóór het eerste gebruik controleert u of al het verpakkingsmateriaal is verwijderd. Vergeet de bescherming tussen de kom (D) en het motorblok (A) niet.

- Plaats de afdichtingsring (E4) op de afdichtingsringhouder (E3) (zie Fig. 1), klik het geheel op het deksel (E2) (zie Fig. 2).

- Plaats de afdichtingsring (D4) op de aandrijfjas (D3). Vergrendel het geheel op de bodem van de kom met de vergrendelingsring (D5) (zie Fig. 3).

- Plaats het gekozen accessoire in de kom:

- plaats de accessoires (F1, F2, F3 of F4) op de aandrijfjas op de bodem van de kom (zie Fig. 4.1),

- Haal de stoommand binnenin de kom (F5), (zie Afb. 4.3), eerst uit voordat u de 0,7L kom met een vloeistof (water, saus,...) vult (zie Afb. 4.2)

- Doe de ingrediënten in de kom of stoommand.

- Zet de twee driehoeken op het deksel en de handgreep op een lijn en plaats het deksel op de kom (D) (Zie Fig. 5), draai het deksel in de richting van de pijl om het te vergrendelen zonder erop te duwen (Zie Fig. 6)

- Plaats de stoomregelknop (E1) op het deksel, er zijn 2 mogelijkheden: stoomstand maxi (a) of stoomstand mini (b).



**Met de stoomstand "mini" kunt u een maximale hoeveelheid condensatie laten ontsnappen, waardoor uw gerechten of sauzen een betere consistentie (stevigheid) krijgen (risotto, roomdesserts, sauzen enz.).**



**Met de stoomstand "maxi" maakt u voor al uw stoomgerechten (soepen enz.) optimaal gebruik van warmte en stoom in de kom.**

**Dankzij deze stand vermijdt u ook spatten tijdens het mixen.**

- Plaats de kom (D) op het motorblok (A). tot u 'klik' hoort (zie Fig. 8).

- Het apparaat werkt alleen als de kom en het deksel correct zijn geplaatst en zijn vergrendeld op het motorblok.

**Wanneer één van beide onderdelen niet correct is geplaatst of vergrendeld (zie Fig. 10.1 en 10.2), begint het lampje te knipperen wanneer we een functie activeren.**

## GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL (B)

Keuze van een automatisch programma:



Sausprogramma



Stoomprogramma  
(programma P1 zachte stoom / P2 intense stoom)



Soepprogramma (programma P1 fijne soep/ P2 grove soep)



Deegprogramma  
(programma P1 brood / P2 brioche / P3 cake)



Stoofprogramma  
(programma P1 groenteschotels / P2 vlees- en gevogelteragout / P3 risotto)



Dessertprogramma

Keuze bij de handmatige stand:



Keuze van de motorsnelheid.  
2 interval snelheden en 10 continue snelheden.



Verhoging van de snelheid, de kooktemperatuur en -tijd.



Verlaging van de snelheid, de kooktemperatuur en -tijd.



Keuze van de kooktemperatuur.  
Van 30° tot 130°C  
Verwarmingscontrolelampje:  
dit lampje licht op wanneer de bereiding start en dooft wanneer de temperatuur in de kom onder de 50°C zakt.



Deze knop heeft 3 functies:

- **Bevestiging** van de keuze van uw automatisch programma of van uw gekozen parameters in de handmatige modus (de snelheid, de kooktemperatuur en -tijd).
- **Pauze** tijdens het gebruik, wanneer de bereiding is gestart.
- **Herinitialisering** van de gekozen parameters van het apparaat door de knop 2 seconden ingedrukt te houden.



Keuze van de kooktijd.  
van 5 s tot 2 uur



Keuze van de functies **turbo** (maximumsnelheid) en **pulse** (interval werking) zonder rekening te houden met andere ingestelde keuzes.

### Gebruikstip:

Uw apparaat is voorzien van een microprocessor die de stabiliteit analyseert en controleert. Bij instabiliteit wordt de rotatiesnelheid van de motor automatisch verlaagd, als de instabiliteit blijft voortduren, wordt de motor gestopt en verschijnt er 'STOP' op uw scherm.

- Controleer of de hoeveelheden van de ingrediënten niet te groot zijn en of de gebruikte snelheid de geschikte is.
- Controleer of u het correcte accessoire gebruikt.
- Zet uw apparaat opnieuw aan.

## GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk de schakelaar (H) naar stand 1. Alle parameters (instellingen) op het LCD-scherm (C) staan op «0» (zie Fig. 9)

### AUTOMATISCHE STAND

NL



1- Druk op een programma naar keuze (B1). Er verschijnt een driehoek (C4) op het scherm onder het gekozen programma. Als u voor een programma voor soepen, stoofschotels of deeg kiest, moet u enkele keren op de knop drukken om één van de verschillende subprogramma's te kunnen selecteren.

2- De voorgeprogrammeerde parameters kunnen worden gewijzigd tijdens de bereiding van een recept (met betrekking tot het gekozen recept, de ingrediënten en de hoeveelheden). Druk op de snelheidsschakelaar (B2), de temperatuurschakelaar (B3) of de tijdschakelaar (B4), de gekozen parameter begint te knipperen op het scherm (C1-C2-C3).



3- Regel de parameter(s) met behulp van de '+/-'-schakelaar (B6).



4- Wanneer u al uw parameters heeft gewijzigd, drukt u op de 'start'-knop (B7) om het programma te starten. Wanneer uw apparaat in werking is getreden, licht het rode controlelampje (B3) op om aan te geven dat de bereiding is gestart.

5- Wanneer het programma stopt, klinken er 3 pieptonen.

6- Na afloop van de programma's voor sauzen, soepen, stoofschotels P2 en P3, stoombereidingen en desserts, schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudbewerking om de bereiding

serveerbaar te houden. Deze fase duurt 45 minuten. In het programma sauzen, stoofschotels P2 en P3, dessert en in de handmatige stand werkt de motor van het apparaat met een specifieke snelheid om de bereiding zo intact mogelijk te houden en te voorkomen dat ze aan de bodem van de kom kleeft. Druk op de 'stop'-knop (B7) om de warmhoudbewerking uit te schakelen. Als u het deksel opent, op de ontgrendelknoppen (D2) drukt of de kom verwijdert, wordt de warmhoudbewerking automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de programma's voor stoven P2 en P3 en het bereiden van sauzen en desserts zijn afgelopen, blijft de motor draaien tijdens het warmhouden om te vermijden dat de bereiding aan de bodem van de kom blijft kleven.

Na de kneedfase van de deegprogramma's P1 en P2, schakelt het apparaat over naar de "rijsmodus" op 30°C om uw deeg meer volume te geven. Deze fase duurt 40 minuten. Als u het deksel opent, op de trekkers (D2) drukt of de kom verwijdert, schakelt het apparaat over naar de "pauzemodus". Druk opnieuw op 'start' om de bereiding voort te zetten.

Houd de 'stop'-knop 2 seconden ingedrukt om deze modus uit te schakelen.

7- Druk op de ontgrendelknoppen (D2) en verwijder de kom (D) (zie Fig. 12).

Wanneer het automatische programma is gestart, kunt u het programma op elk moment onderbreken door op de 'stop'-knop te drukken. Het automatische programma schakelt over naar de pauzemodus. Druk opnieuw op 'start' om de bereiding voort te zetten. Als u het verkeerde programma heeft gekozen en u het programma wilt annuleren, houdt u de 'stop'-knop 2 seconden ingedrukt.

## ONTDEK DE VOORGESTELDE, AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S:

		Saus	Soep P1	Soep P2	Stoofschotel P1	Stoofschotel P2	Stoofschotel P3
Automatische programma's							
Accessoires							
Snelheid "standaard" (instelbaar)		Snelheid 6 (snelheid 2 tot snelheid 8)	10 pulsen en V12 gedurende 2 min.	V7 tot V10 gedurende 30 sec.	V3	V1	V2
Standaard temperatuur (instelbaar)		70°C (50°C tot 100°C)	100°C (90°C tot 100°C)	100°C (90°C tot 100°C)	130°C (niet instelbaar)	95°C (80°C tot 100°C)	95°C (80°C tot 100°C)
Tijd "standaard" (instelbaar)		8 min (5 min tot 40 min)	40 min (20min tot 60 min)	45 min (20 min tot 60 min)	5 min (2 min tot 15 min)	45 min (10 min tot 2h)	20 min (10 min tot 2h)
"Standaard"-duur voor warmhouden na afloop van het programma		45 min	45 min	45 min		45 min	45 min
Motoroerental tijdens het warmhouden		Snelheid 4				5s ON in snelheid 3 / 20s OFF	10s ON in snelheid 3 / 10s OFF

		Bereiding stoom P1	Bereiding stoom P2	Deeg P1	Deeg P2	Deeg P3	Dessert
Automatische programma's							
Accessoires							
Snelheid "standaard" (instelbaar)				V5 gedurende 2 min. 30 sec.	V5 gedurende 1 min. 30 sec. vervolgens V6 gedurende 2 min.	V3 gedurende 40 sec. Vervolgens V9 gedurende 3 min.	Snelheid 6 (snelheid 2 tot snelheid 8)
Standaard temperatuur (instelbaar)		100°C (niet instelbaar)	100°C (niet instelbaar)				90°C (50°C tot 110°C)
Tijd "standaard" (instelbaar)		30 min (1 min tot 60 min)	35 min (1 min tot 60 min)	2 min 30 s (30 s tot 2 min 30 s)	3 min 30 s (30 s tot 3 min 30 s)	3 min 40 s (1 min 40 s tot 3 min 40 s)	15 min (5 min tot 60 min)
«Standaard»-duur voor warmhouden na afloop van het programma		45 min	45 min				45 min
Motoroerental tijdens het warmhouden				40 min	40 min		Snelheid 4

NL

## GEBRUIK VAN HET STOOMBEDRIJF

De kooktijden zijn ter indicatie gegeven, ze bieden doorgaans voldoende tijd voor een geslaagde bereiding.

Toch zullen bepaalde omstandigheden de kooktijd beïnvloeden:

- de grootte van de groenten (gesneden of niet gesneden)
- de hoeveelheid ingrediënten in het mandje
- de variëteit van de groenten, hun rijpheid
- de hoeveelheid water in de kom, die moet overeenstemmen met de graadverdeling (0,7 l).

Vergeet niet om de stoomregeldop naar u toe te draaien tot in de hoge stoomstand (a).

Als de kooktijd onvoldoende blijkt, kunt u nog wat extra tijd toevoegen.

NL

**U kunt de handmatige stand ook gebruiken door de temperatuur van 130 °C en de kooktijd te kiezen op basis van de hoeveelheid en het type ingrediënten: zie tabel hierna.**

Kooktijd stomen			
Ingrediënten	Hoeveelheden (max.)	Geschatte kooktijd	Aanbevolen stoomprogramma
Courgettes	800 g	20 min	P1
Pastinaak	800 g	25 min	P1
Preiwit	800 g	25 min	P1
Broccoli	500 g	20 min	P1
Vis	600 g (met bakpapier)	15 min	P1
Aardappelen	1 kg	30 min	P2
Wortelen	1 kg	30 min	P2
Prinsessenbonen	800 g	30 min	P2
Wit vlees	600 g (met bakpapier)	20 min	P2

**Tijdens bepaalde bereidingen worden luchtbellen gevormd en kan de kom overlopen. Wees vooral voorzichtig als u diepvriesgroenten gebruikt. Gebruik kleinere hoeveelheden om overlopen te voorkomen.**

## HANDMATIGE STAND



1- Druk op de schakelaar van de parameter die u wilt instellen (de snelheidsschakelaar (**B2**), de temperatuurschakelaar (**B3**) of de tijdschakelaar (**B4**). De gekozen parameter knippert op het scherm (**C1-C2-C3**).



2- Regel vervolgens de parameter(s) met behulp van de '+/-' - schakelaar (**B6**). Om veiligheidsredenen kunt u de temperatuur niet regelen zonder eerst een kooktijd in te stellen.



3- Wanneer u al uw parameters heeft ingesteld, drukt u op de 'start'-knop (**B7**). Wanneer uw apparaat in werking is getreden, licht het rode controlelampje (**B3**) op om

aan te geven dat de bereiding is gestart. Wanneer het programma is gestart, kunt u het op elk moment onderbreken door op de 'stop'-knop te drukken.

Het programma schakelt over naar de pauzemodus.

Druk opnieuw op 'start' om de bereiding voort te zetten. Als u het verkeerde programma heeft gekozen en u het programma wilt annuleren, houdt u de 'stop'-knop 2 seconden ingedrukt-.

NL

4- Wanneer het programma stopt, klinken er 3 pieptonen.

5- Druk op de ontgrendelknoppen (**D2**) en verwijder de kom (**D**) (zie Fig. 12).

### Functies Turbo / Pulse

1- U heeft directe toegang tot de functies 'turbo' en 'pulse' (**B5**) via het bedieningspaneel (**B**). Houd de 'turbo'-knop ingedrukt om de **turbomodus** (maximumsnelheid) te activeren. Op het LCD-scherm verschijnt de gebruiksduur (**C3**) om u verder te helpen. Als u de **pulsemodus** (interval werking) gebruikt, drukt u op de 'pulse'-schakelaar om de functie te activeren en te deactiveren. Het LCD-scherm helpt u verder en toont de gebruiksduur. Wanneer de functie is geactiveerd, kunt u deze op elk moment uitschakelen door op de 'stop'-knop te drukken. De functie schakelt over naar de pauzemodus. Druk opnieuw op 'start' om de functie te reactiveren.

## BELANGRIJK – AANVULING OP DE HANDLEIDING VOOR DE BEVEILIGING AN HET APPARAAT ("SECU")



De motor van uw apparaat is standaard elektronisch beveiligd, om ervoor te zorgen dat u het apparaat zo lang mogelijk kan

hoeveelheden en/of abnormaal lang gebruik en/of volgorde van recepten te snel na elkaar), wordt de elektronische beveiling geactiveerd om de motor te beschermen. In dit geval stopt het apparaat en wordt "SECU" op het display van het LCD-bedieningspaneel weergegeven om aan te geven dat het apparaat momenteel niet gebruikt kan worden.

Als uw apparaat wordt uitgeschakeld en u de melding "SECU" ziet op het bedieningspaneel, neem dan onderstaande stappen:

- Zorg ervoor dat uw apparaat ingeschakeld blijft, druk niet op de "0/1"-schakelaar.
- Raadpleeg de richtlijnen van de gebruikshandleiding om uw bereiding aan te passen (zie de paragraaf "INGEBRUIKNAME": hoeveelheid ingrediënten/bereidingstijd/temperatuur/type accessoires).

gebruiken. Dankzij deze elektronische beveiling bent u beschermd tegen afwijkend gebruik van het apparaat; op die manier is de motor perfect beveiligd.

Onder zware gebruiksomstandigheden, in geval van persoonlijke recepten (van het internet of andere bronnen) of als de aanbevelingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld worden genegeerd (in het bijzonder de sectie "STARTEN": te grote

- Wacht een half uur om de motor te laten afkoelen.
- Voer een reset uit door 2 seconden de knop "Start/Stop/Reset" ingedrukt te houden (punt B7 in de gebruikshandleiding).

Uw apparaat is nu opnieuw helemaal klaar voor gebruik.  
Met mogelijke vragen kunt u terecht bij onze Consumentenservice (zie de info in het garantieboekje)

NL

## HET APPARAAT SCHOONMAKEN

- Houd het apparaat nooit onder de kraan. Houd het motorblok (A) niet onder stromend water.  
Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact na gebruik.
- Maak de kom onmiddellijk schoon na gebruik.
- Druk op de ontgrendelknoppen (D2) en verwijder de kom (D).
- Zet de kom op een vlak werkblad.
- Draai het deksel een kwartslag met de wijzers van de klok mee om het te ontgrendelen.
- De onderdelen van het deksel (pakking, pakkinghouder en het deksel zelf) zijn afneembaar. Zodra de delen zijn afgekoeld, maak de pakkinghouder los van het deksel door het uiteinde van de schoonmaakborstel (I) tussen de twee onderdelen te schuiven en een lichte druk uit te oefenen om ze van elkaar te scheiden (zie Fig. 15).
- Wees voorzichtig wanneer u de messen van het ultrablade hakmes (F1) en van het mes om te kneden/hakken (F4) schoonmaakt en de kom leegt. De messen zijn zeer scherp.
- Wanneer de onderdelen zijn afgekoeld:
  - demonteert u de aandrijfas (D3), de afdichtingsring (D4) en de vergrendelingsring (D5) (zie Fig. 13).
  - maakt u de kom (D), de aandrijfas (D3), de afdichtingsring (D4), de vergrendelingsring (D5), de accessoires (F1), (F2), (F3), (F4), (F5), de stoomregelknop (E1), het deksel (E2), de afdichtingsringhouder (E3) en de afdichtingsring (E4) schoon met een spons en warm water met afwasmiddel.
- Spoel de verschillende elementen onder stromend water.
- Als u na het losmaken van de afneembare aandrijfas (D3) kalk of vlekken op de
- kom waardeert, kunt u, indien nodig, de schuurkant van een sponsje gebruiken dat is geweekt in wit azijn of een schoonmaakproduct specifiek voor roestvrij staal.
- Als de kom zeer vuil is, week deze enkele uren in water met afwasmiddel en, indien nodig, krab het vuil af met de spatel (G) of de schuurkant van een sponsje.
- Bij kalkaanval kunt u een schuurspons gebruiken, eventueel gedrenkt in azijn.
- Gebruik een vochtige doek om het motorblok (A) schoon te maken. Droog het daarna zorgvuldig af.
- De kom, het deksel en de accessoires zijn vaatwasmachinebestendig. De aandrijfas (D3 en D4) en de vergrendelingsring (D5) mogen niet in de vaatwasser worden schoongemaakt (zie Fig. 14).
- De accessoires, de afneembare aandrijfas en de elementen van het deksel kunnen licht verkleuren als u bepaalde ingrediënten gebruikt zoals curry, wortelsap... De verkleuring is niet schadelijk voor uw gezondheid en heeft geen invloed op de werking van uw apparaat. Maak de elementen snel schoon na gebruik om dit te voorkomen.
- Controleer voordat u uw komset (D) opnieuw gebruikt altijd of de elektrische contacten onder de kom schoon en droog zijn.
- Om de materialen van de kom (D) niet aan te tasten, houd rekening met de gebruiksaanwijzingen van uw vaatwasmachine en gebruik geen hogere dosis zout of vaatwasmiddel dan wat is aanbevolen.

## UW APPARAAT WERKT NIET. WAT NU?

NL

PROBLEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Onvoldoende gekookt	De kooktijden zijn enkel indicatief, deze leiden in de meeste gevallen tot een bevredigend resultaat. Bepaalde omstandigheden hebben echter een impact op de kooktijd: - de grootte van de levensmiddelen (al dan niet gesneden); - de hoeveelheid ingrediënten; - de verscheidenheid en rijpheid van de groenten; - of de ingrediënten al dan niet bevroren zijn...	Voeg extra kooktijd toe met behulp van de tijdschakelaar (B4). Snij de levensmiddelen in kleinere stukken.
	Stoomregeldop verkeerd geplaatst of ontbreekt	Plaats de stoomregeldop zodat "max steam" naar u is gericht. Deze positie zorgt voor een maximale warmte in de kom voor alle kookprogramma's (soepen, stomen, etc.). Deze positie verhindert tevens gespat tijdens het mixen. De stand "mini steam" zorgt voor een maximale vrijgave van condens om de gerechten of sauzen een betere consistentie te geven (risotto, dessertroom, sauzen, etc.)
Stoomproces gaat niet zoals het hoort	Onvoldoende water in de kom. Te grote stukken.	De hoeveelheid water in de kom moet overeenstemmen met de schaalverdeling (0,7L). U kunt tevens de handmatige modus gebruiken door het selecteren van een temperatuur van 120°C en een kooktijd afhankelijk van de hoeveelheid en het soort ingrediënten. Snij de levensmiddelen in kleinere stukken.
Bepaalde recepten zijn niet succesvol	Ongeschikte recepten	Het is mogelijk dat uw recepten, persoonlijke of van internet gehaald, niet geschikt zijn voor uw apparaat (hoeveelheden, kooktijd, duur). Voordat u uw recept start, volg de gebruiksaanwijzingen die in deze handleiding zijn vermeld.
Het apparaat werkt niet.	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
	De schakelaar (H) staat in de stand 0.	Schuif de schakelaar naar stand 1.
	De kom of het deksel zijn niet correct geplaatst of vergrendeld.	Controleer of de kom en het deksel correct zijn geplaatst en vergrendeld volgens de schema's in de gebruiksaanwijzing.
Het deksel kan niet worden vergrendeld.	Het deksel is niet compleet.	Controleer of de afdichtingsring correct is geplaatst op de afdichtingsringhouder en dat de afdichtingsringhouder correct is gemonteerd op de het deksel.

PROBLEEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Overmatige trillingen.	Het apparaat staat niet op een vlakke en stabiele ondergrond.	Zet het apparaat op een vlakke ondergrond.
	De hoeveelheid ingrediënten is te groot.	Verminder de hoeveelheid ingrediënten.
	Storing accessoires.	Controleer of u het correcte accessoire gebruikt.
Gering geluid tijdens de werking	De aandrijving van uw apparaat kan geluid maken tijdens een werking op lage snelheid of gebruik met bepaalde ingrediënten (rijst,...)	Dit is slechts van korte duur en heeft geen impact op de levensduur van uw apparaat. Dit neemt af of verdwijnt na enkele gebruiks- en reinigingsbeurten van de afneembare aandrijfias (zie de paragraaf "Het apparaat reinigen").
Overmatig geluid tijdens de werking	Het gebruik van verkeerd toebehoren	Gebruik gepaste toebehoren (bijv.: gebruik de klopper F3 niet voor het kneden van mengen van deeg, gebruik het mes F4). Raadpleeg hiervoor de aanbevelingen op de recepten en de gebruiksaanwijzingen vermeld in deze handleiding.
Het deksel lekt.	Het gebruik van verkeerd toebehoren	Verminder de hoeveelheid ingrediënten.
	Het deksel is niet correct geplaatst of vergrendeld.	Vergrendel het deksel correct op de kom.
	De afdichtingsring is niet geplaatst.	Plaats de afdichtingsring op de afdichtingsringhouder en klik het geheel op het deksel.
	De afdichtingsring is gebarsten of versleten.	Vervang de afdichtingsring. Neem contact op met een erkend service center.
	Storing accessoires.	Controleer of u het correcte accessoire gebruikt.
De aandrijfas van de kom lekt.	De afdichtingsring is niet correct geplaatst.	Plaats de afdichtingsring goed.
	De afdichtingsring is versleten.	Neem contact op met een Erkend service center.
	De vergrendelingsring (D5) is niet goed vergrendeld.	Vergrendel de ring goed (D5).
De messen draaien niet vrij rond.	De stukjes zijn te groot of te hard.	Maak kleinere stukjes of verminder de hoeveelheden. Voeg vloeistof toe.
Motorgeur.	Tijdens het eerste gebruik of wanneer de motor wordt overbelast door een te grote hoeveelheid ingrediënten of te harde of te grote stukken.	Laat de motor afkoelen (ongeveer 30 minuten) en doe een kleinere hoeveelheid ingrediënten in de kom.
'STOP' verschijnt op het scherm.	Het apparaat heeft trillingen gesignaliseerd en is overgeschakeld naar de veiligheidsstand.	Controleer of u de aanbevolen snelheid en het aanbevolen accessoire gebruikt.
'SECU' verschijnt op het scherm.	Overbelaste motor veroorzaakt door een te grote hoeveelheid ingrediënten, te harde of te grote stukken of een te snelle opeenvolging van bereidingen zonder voldoende afkoelingstijd.	Laat de motor afkoelen (ongeveer 30 minuten) en doe een kleinere hoeveelheid ingrediënten in de kom.

PROBLEEMEN	OORZAKEN	OPLOSSINGEN
'SECU' verschijnt op het scherm + rode controlelampje knippert.	Oververhitting van de temperatuursensoren.	Neem contact op met een erkend service center
'Err1' verschijnt op het scherm + rode controlelampje knippert.	De verwarmingsweerstand werkt niet.	Zorg ervoor dat de veldspinnen onder de kom niet vuil zijn. Maak ze schoon als ze vuil zijn en probeer opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een erkend service center.
'Err2' verschijnt op het scherm.	Elektronische storing.	Neem contact op met een erkend service center.
'Err3' verschijnt op het scherm.	Storing snelheid.	Neem contact op met een erkend service center.
'Err4' verschijnt op het scherm.	Storing communicatie met de elektronische kaart – chopper.	Neem contact op met een erkend service center.
Weergave van "Err8".	Defecte vergrendelingssensor	Neem contact op met een erkend servicecentrum.
'Ntc1' verschijnt op het scherm + rode controlelampje knippert.	De temperatuursensor 1 werkt niet meer.	Neem contact op met een erkend service center.
'Ntc2' verschijnt op het scherm + rode controlelampje knippert.	De temperatuursensor 2 werkt niet meer.	Neem contact op met een erkend service center.
Weergave van de veiligheidsindicator (C5) 	Verkeerde vergrendeling van de kom of het deksel	Voordat u het apparaat inschakelt, controleer of de kom juist op de motoreenheid is vastgemaakt en het deksel juist op de kom is vastgemaakt. Als het probleem zich blijft voordoen, neem contact op met een erkend servicecentrum.
De beveiliging van de vergrendeling van het deksel blijft actief (stang naar buiten), waardoor het deksel niet kan vergrendeld worden.	Het apparaat werd uitgeschakeld tijdens het recept door de I/O-schakelaar op O te zetten of door eenvoudigweg de stekker uit te trekken tijdens het recept.	Het volstaat om de I/O-schakelaar op I te zetten om de robot te resetten en bijgevolg de beveiliging van de vergrendeling van het deksel. De stang neemt automatisch terug de aanvangspositie in en u kunt het deksel nu vergrendelen.

### Uw apparaat werkt nog steeds niet?

Ga naar een erkend service center (zie bijgevoegde lijst).

## AFVALVERWERKING

### • Vernietiging van de verpakking en het apparaat



De verpakking bestaat voor 100% uit milieuvriendelijk materiaal dat in overeenstemming met de bepalingen omtrent afvalverwerking kan worden vernietigd.

Breng het apparaat naar een gemeentelijk afvalinzamelpunt.

### • Elektrisch of elektronisch product aan het eind van de levenscyclus:

#### Bescherm het milieu!



① Uw apparaat bevat verschillende materialen die geschikt zijn voor terugwinning of recycling.



② Breng het apparaat naar een afvalinzamelpunt voor een correcte verwerking.

## SICHERHEITSHINWEISE:

### Hinsichtlich der Personensicherheit

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf: Die unsachgemäße Verwendung entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
- Für Montage-, Demontage- und Reinigungszwecke bzw., wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, sollten Sie dieses immer von der Stromversorgung trennen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht durch Erwachsene verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät und dessen Stromkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder durch Personen ohne entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse vorgesehen, es sei denn, diese werden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder haben von dieser zuvor Anweisungen zum Gebrauch des Geräts erhalten. Es empfiehlt sich, die Kinder zu beaufsichtigen,

um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

- Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



- Während des Betriebs werden manche Geräteteile heiß (Wand des Edelstahlbehälters, abnehmbare Mitnehmer, transparente Teile des Deckels und des Dosierverschlusses, Metallteile unter dem Behälter, Korb). Diese können Verbrennungen verursachen. Fassen Sie das Gerät an den kalten Kunststoffteilen an (Griffe, Motorblock). Die rote Aufheizkontrollleuchte weist auf Verbrennungsgefahr hin.
- Die zugänglichen Teile des Geräts können sehr heiß werden, wenn dieses in Betrieb ist.
- Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es beschädigt wurde oder wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind. Aus Sicherheitsgründen darf das Kabel nur von einem autorisierten Kundendienstzentrum ausgetauscht werden (siehe Liste im Serviceheft).
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Halten Sie den Motorblock (A) niemals unter fließendes Wasser.

- Dieses Gerät dient ausschließlich der Zubereitung von Speisen in geschlossenen Räumen und in Höhenlagen unter 2000 m. Der Hersteller übernimmt weder Garantie noch Haftung für den Fall einer gewerblichen, unsachgemäßen oder nicht den Angaben der Bedienungsanleitung entsprechenden Nutzung des Gerätes.
- Dieses Gerät ist nicht für folgende haushaltssübliche Anwendungen vorgesehen (wird nicht von der Garantie abgedeckt), wie zum Beispiel :
  - In Kochnischen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen.
  - In Teeküchen für das Personal in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen.
  - In landwirtschaftlichen Betrieben.
  - Für Hotel- und Motelkunden, bzw. in sonstigen derartigen Unterbringungen,
  - In Gästezimmern o. Ä.



- Während des Betriebs entsteht Dampf, der Verbrennungen verursachen kann. Gehen Sie mit Deckel und Dosierverschluss vorsichtig um (verwenden Sie bei Bedarf einen Handschuh, Topflappen usw.). Fassen Sie den Dosierverschluss an seinem Mittelteil an.
- Das Gerät darf nicht eingeschaltet werden, wenn sich der Dichtungsring

nicht auf dem Dichtungsträger und der Dichtungsträger nicht im Deckel befinden. Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, muss der Deckel unbedingt korrekt eingesetzt werden (außer im Falle anderslautender Angaben im Rezept).



**ACHTUNG:** Bei unsachgemäßer Verwendung des Geräts besteht Verletzungsgefahr. Gehen

Sie vorsichtig mit den Messern des Ultrablade-Hackmessers (F1) und des Knet-/Mahlmessers (F4) um, wenn Sie diese reinigen und wenn Sie den Behälter leeren. Diese sind sehr scharf.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in das Küchengerät geben; diese können bei Siedetemperaturen aus dem Gerät spritzen.

Verstauen Sie das Ultrablade-Hackmesser (F1) nach jedem Gebrauch im Behälter.

**WARNHINWEIS:** Seien Sie bei der Bedienung Ihres Gerätes stets vorsichtig (bei Reinigung, Befüllen und Ausgießen): Vermeiden Sie jegliches Überlaufen von Flüssigkeiten auf den Stecker.

**WARNHINWEIS:** Die Oberfläche des

**Heizelements gibt auch nach dem Gebrauch Restwärme ab.**

**Achten Sie darauf, dass Sie die Griffen Ihres Produktes während des Heizvorgangs und bevor das Gerät nicht komplett abgekühlt ist, nicht anfassen**  
**(Griff mit Drücker D2, Griff für den Deckel E2 und Dampfregler E1).**

- DE**
- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung durch, um Informationen über den richtigen Umgang mit der Geschwindigkeitsregulierung und den Funktionszeiten von jedem Zubehör und jedem Programm zu erhalten.
  - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um Informationen über den Aufbau und das Anbringen des Zubehörs am Gerät zu erhalten.
  - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, um Informationen über die Reinigung und Wartung des Gerätes zu erhalten.
  - Befolgen Sie bei der Reinigung des Gerätes die Reinigungsanweisungen:
    - Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
    - Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es noch heiß ist.
    - Reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
    - Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und halten Sie es nicht unter fließendes Wasser.

## **NUR FÜR DEN EUROPÄISCHEN MARKT:**

- Bewahren Sie das Gerät und dessen Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Es ist untersagt, Kinder mit dem Gerät spielen zu lassen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen bzw. Kenntnissen verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder zuvor eine adäquate Unterweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Gerätes erhalten haben und sich der möglichen Risiken bewusst sind.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt werden oder zuvor eine adäquate Unterweisung bezüglich der sicheren Verwendung des Gerätes erhalten haben und sich der möglichen Risiken bewusst sind. Reinigung und Pflege dürfen nur von Kindern durchgeführt werden, wenn diese älter als 8 Jahre sind und dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

## Hinsichtlich des elektrischen Anschlusses

- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt. Bitte stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Jeglicher Anschlussfehler führt zum Verlust des Garantieanspruchs.
- Trennen Sie das Gerät nie von der Stromversorgung, indem Sie am Kabel ziehen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Stromkabel oder den Stecker nicht ins Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
- Das Stromkabel darf sich weder in der Nähe der heißen oder drehenden Teile Ihres Geräts befinden, noch darf es diese berühren; ebenso wenig darf es in die Nähe einer Wärmequelle kommen oder scharfe Kanten berühren.

## Hinsichtlich eines falschen Gebrauches

- Berühren Sie den Deckel nicht, bevor sich das Gerät vollständig im Stillstand befindet (Stopptaste); warten Sie, bis sich die gemixten Zutaten nicht mehr in Bewegung befinden.

• Geben Sie immer zuerst die festen Zutaten in den Behälter und fügen Sie erst dann die flüssigen Zutaten hinzu, ohne jedoch die Höchstmarke von 2,5 L zu überschreiten, die auf der Innenseite des Behälters gekennzeichnet ist (**siehe Abb. 11**). Wenn der Behälter zu voll ist, kann kochendes Wasser herausspritzen.

- Achten Sie beim Dampfgaren darauf, dass das Wasservolumen von 0,7 Liter nicht überschritten wird (**siehe Abb. 4.2**).
- Halten Sie niemals Ihre Finger oder sonstige Gegenstände in den Behälter, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Benutzen Sie den Behälter nicht zum Tiefgefrieren oder Sterilisieren.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nur auf einer stabilen, hitzebeständigen, sauberen und trockenen Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von empfindlichen Gegenständen, einer Wand oder in einem Schrank auf: Der austretende Dampf könnte Schäden verursachen.
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht in die Nähe einer eingeschalteten Wärmequelle (Kochplatte, elektrisches Haushaltsgerät, usw.).
- Bedecken Sie den Deckel nicht mit einem Lappen o. Ä., und versuchen Sie nicht die Öffnung für den Deckel

zu verstopfen; verwenden Sie dazu den Dampfregler.

- Vermeiden Sie es, Ihre Haare, Schals, Krawatten usw. über das sich im Betrieb befindende Gerät zu halten.
- Die Zubehörteile dürfen nicht in den Mikrowellenherd gegeben werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Die in der Bedienungsanleitung angegebene Höchstmenge darf keinesfalls überschritten werden.
- Reinigen oder verstauen Sie das Gerät erst in abgekühltem Zustand.
- Schüssel zum Abkühlen nicht in den Gefrierschrank stellen. Benutzen Sie den Kühlschrank.

DE

## Kundendienst

- Reinigen oder verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur für Ihr Gerät geeignete und bei einem autorisierten Kundendienst erworbene Zubehör- und Ersatzteile.
- Außer den üblichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten, welche der Kunde selbst durchführen kann, muss jeder weitere Eingriff von einem autorisierten Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Siehe Tabelle „Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?“ am Ende der Bedienungsanleitung.

Vielen Dank, dass Sie dieses Gerät ausgewählt haben, das ausschließlich für den privaten Gebrauch in Innenbereichen zur Zubereitung von Lebensmitteln vorgesehen ist.



Beim Durchlesen dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie Gebrauchstipps für die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten Ihres Gerätes: Zubereitung von Saucen und Suppen, Schmortopf, Dampfgaren, Nudeln und Desserts.

DE

## BESCHREIBUNG DES GERÄTES:

A Motorblock

B Bedienfeld

- B1: Auswahltasten für automatische Programme
- B2: Geschwindigkeitsregler
- B3: Gartemperaturregler und/oder Aufheizkontrollleuchte
- B4: Betriebszeitregler
- B5: Pulse-/Turbo-Regler
- B6: „+/-“-Regler
- B7: Start-/Stop-/Reset-Taste

C LCD-Display

- C1: Anzeige der Geschwindigkeit
- C2: Anzeige der eingestellten Temperatur
- C3: Zeitanzeige
- C4: Programmanzeige
- C5: Sicherheitskontrollleuchte (✉)

D Mixaufsatz

- D1: Edelstahlbehälter
- D2: Griff mit Drücker
- D3: Abnehmbare Mitnehmer
- D4: Dichtungsring
- D5: Sicherungsring für den Antrieb

E Deckeleinheit

- E1: Dampfregler
- E2: Deckel
- E3: Dichtungsträger
- E4: Dichtungsring

F Zubehörteile:

- F0: Zubehördose
- F1: Ultrablade-Hackmesser
- F2: Mischer
- F3: Rührer
- F4: Knet-/Mahlmesser
- F5: Dampfkorb

G Küchenspatel

H Schalter 0/1 zum Abschalten der Stromversorgung Ihres Geräts

I Reinigungsbürste

## TECHNISCHE GERÄTEDATEN:

**Leistung:** 1550 W (1000 W: Heizelement / 550 W: Motor )

**Temperaturbereich:** von 30° bis 130°C;  
erhöhbar in Stufen von 5°C.

**Betriebsdauer:** 5 Sekunden bis 2 Stunden  
erhöhbar in Stufen von min. 5 Sekunden und max. 1 Minute.

**Anzahl der Geschwindigkeiten: 12**

- 2 Geschwindigkeitsstufen:  
Geschwindigkeit 1 (5 s On / 20 s Off).  
Geschwindigkeit 2 (10 s On / 10 s Off).
- 10 progressive Geschwindigkeitsstufen  
(Geschwindigkeiten 3 bis 12).

## INBETRIEBNAHME:

Ihr Gerät ist mit einem 0/1-Schalter ausgestattet; stellen Sie den Schalter auf die Position 1. (siehe Abb. 9) Im Lieferumfang Ihres Geräts sind folgende Bestandteile enthalten:

Hackmesser	F1	Suppenmixer		3 min	2,5 L
		Kompottmixer		40 s	1 Kg
		Gemüse zerkleinern		15 s	1 Kg
		Fleisch zerkleinern		30 s	1 Kg
		Fisch zerkleinern		15 s	1 Kg
<b>!! Verwenden Sie dieses Zubehörteil nicht, um harte Zutaten zu zerkleinern, verwenden Sie dafür das Knet-/Mahlmesser F4.</b>					
Mischer	F2	Rissolen		5 min	500 g
		Schmortopf		45 min	2,5 L
		Risottos		22 min	1,5 Kg
		Ratatouilles, Chutneys, Hülsenfrüchte (Einstellungen: siehe Rezeptbuch)			
Rührer	F3	Eiweiß		5/10 min	7 max
		Mayonnaisen, Schlagsahne		2/5 min	0,5 L
		Soßen, Cremes		1/20min	1L
		Soße		1min	1L
		Polenta		1/16min	1L
Knet- und Mahlmesser	F4	Kneten von Nudeln und Weißbroteig		2 min 30 s	1,2 Kg
		Kneten von Biskuitteig, Brandteig und Spezialbroten		2 min 30 s	1 Kg
		Kneten von Hefeteigen (Brioche, Napfkuchen)		1 min 30 s	0,8 Kg
		Lockere Teigmassen mischen (Sandkuchen)		2 min	1 Kg
		Lockere Teigmassen mischen (Sandkuchen)		40 s	1 Kg
		Schalenfrüchte fein mahlen		3 min	0,6 Kg
		Zerkleinern von harten Produkten		1 min	0,6 Kg
		Zerstoßen von Eis		1 min	0,6 Kg
Dampfkorb	F5	Dampfgaren von Gemüse, Fisch oder Fleisch		20/40 min	1 Kg
		Suppe mit Brocken		40/45 min	2,5 L
		Dampfreglerverschluss			
Deckel	E1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampf maxi (a) = Dampfgaren</li> <li>- Dampf mini (b) = Risotto, Dessertcremes, Saucen...</li> </ul>			

Diese Zubehörteile verfügen ebenfalls über Greifflächen, um die Handhabung bei deren Verwendung während der Zubereitung zu erleichtern.

## IHR GERÄT VERFÜGT ÜBER 2 BETRIEBSARTEN:

- **Automatischer Programmabetrieb:**

Temperatur und Kochdauer sind voreingestellt, um Saucen und Suppen, Schmortopf, Garungen mit Dampf, Nudeln und Desserts im Automatikbetrieb zuzubereiten.

- **Manueller Betrieb:**

Geschwindigkeit, Temperatur und Kochdauer können individuell eingestellt werden, um die Zubereitung Ihren persönlichen Wünschen anzupassen.

## DER DECKEL IHRES GERÄTES IST MIT EINER SICHERHEITSVERRIEGELUNG VERSEHEN.

Der Deckel wird bei jedem Starten des Gerätes gesichert. Dieser Sicherheitsmechanismus verhindert das Öffnen des Deckels während der Zubereitung eines Rezeptes (**Abb. 16**).

**Versuchen Sie nicht, den Deckel mit Gewalt zu öffnen, wenn er verriegelt ist.**

Dieser Sicherheitsmechanismus wird jedes Mal deaktiviert, wenn das Gerät angehalten wird.

Wenn Sie eine Temperatur von 50 °C oder höher und eine Geschwindigkeit von 5 oder höher wählen, wird ein Countdown von 10 Sekunden auf der LCD-Anzeige des Bedienfeldes angezeigt (**Abb. 17**).

Der Deckel kann erst nach Ablauf des Countdowns geöffnet werden.

## ANBRINGEN DES BEHÄLTERS UND DER DECKELEINHEIT

- Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Bestandteile (**D, E, F, G**) mit heißem Seifenwasser, mit Ausnahme des Motorblocks (**A**). Ihr Behälter (**D**) ist mit einem abnehmbaren Antrieb (**D3**) ausgestattet, um die Reinigung zu erleichtern.

- Stellen Sie sicher, dass vor der Inbetriebnahme des Gerätes die gesamte Verpackung, insbesondere die Schutzverpackung zwischen dem Behälter (**D**) und dem Motorblock (**A**), entfernt wurden.

- Setzen Sie den Dichtungsring (**E4**) auf den Dichtungshalter (**E3**) (**siehe Abb. 1**), und klippen Sie die gesamte Einheit auf den Deckel (**E2**) (**siehe Abb. 2**).

- Setzen Sie den Dichtungsring (**D4**) auf den Antrieb (**D3**). Befestigen Sie die Einheit unten im Behälter mittels des Sicherungsringes (**D5**) (**siehe Abb. 3**).

- Setzen Sie das gewünschte Zubehör in den Behälter:

- die Zubehörteile (**F1, F2, F3, oder F4**) auf den Antrieb unten in den Behälter (**siehe Abb. 4.1**),

- den Dampfkorb in das Behälterinnere (**F5**), (**siehe Abb. 4.3**); zuvor muss dieser mit 0,7 L Flüssigkeit aufgefüllt werden (Wasser, Sauce ...)

(**siehe Abb. 4.2**).

- Geben Sie die Zutaten in den Behälter oder in den Dampfkorb.

- Setzen Sie den Deckel auf den Behälter (**D**), ordnen Sie die beiden Dreiecke gegenüberliegend an (**siehe Abb. 5**); verschließen Sie dann ohne Druckausübung den Deckel durch Drehen in Pfeilrichtung (**siehe Abb. 6**).

- Setzen Sie den Dampfreglerverschluss (**E1**) auf den Deckel; dabei sind 2 Positionen möglich: Dampf maxi (**a**) oder Dampf mini (**b**).

 Bei der Einstellung „Dampf mini“ kann am meisten Kondensflüssigkeit entweichen, wodurch Sie Speisen oder Saucen mit einer besseren Konsistenz erhalten (Risotto, Dessertcremes, Saucen etc....).

 Bei der Einstellung „Dampf maxi“ kann am meisten Hitze und Dampf im Behälter gehalten werden, für das Dampfgaren verschiedenster Speisen (Suppen etc....).

Mit dieser Einstellung werden Spritzer während des Mixvorganges verhindert.

- Positionieren Sie den Behälter (**D**) so auf den Motorblock (**A**), dass beim Einrasten ein Klickgeräusch ertönt (**siehe Abb. 8**).

- Das Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn Behälter und Deckel richtig angeordnet und auf dem Motorblock verriegelt sind.

**Bei falscher Anordnung oder schlechter Verriegelung von einem der beiden** (**siehe Abb. 10.1 und 10.2**), beginnt die Sicherheitskontrollleuchte  zu blinken, sobald eine Funktion aktiviert wird.

## VERWENDUNG DES BEDIENFELDES (B)

### Auswahl eines automatischen Programms:

#### Auswahl der persönlichen Einstellungen:

 Auswahl der Motorgeschwindigkeit  
2 gleichmäßige Geschwindigkeitsstufen und 10 progressive Geschwindigkeitsstufen.

 Auswahl der Kochtemperatur.  
Von 30° bis 130°C  
Aufheizkontrollleuchte: Sie leuchtet beim Start des Kochvorganges auf und erlischt, sobald die Temperatur im Inneren des Behälters auf unter 50°C abgesunken ist.

 Auswahl der Betriebsdauer.  
5 Sekunden bis 2 Stunden.

 Auswahl der Funktionen **Turbo** (Höchstgeschwindigkeit) und **Pulse** (Intervallbetrieb), ohne weitere Einstellungen vorzunehmen.



Erhöhung der Geschwindigkeit, der Dauer und der Temperatur  
Verringerung der Geschwindigkeit, der Dauer und der Temperatur.



Taste mit **3 Funktionen**:  
- „**Bestätigung**“ der Auswahl des automatischen Programms oder der für den manuellen Betrieb ausgewählten Einstellungen (Geschwindigkeit, Temperatur, Dauer)  
- „**Pause**“ bei laufendem Betrieb.  
- „**Zurücksetzen**“ der ausgewählten Einstellungen des Geräts, indem die Taste 2 Sekunden lang gedrückt wird.

#### Gebrauchstipps:

Ihr Gerät ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der dessen Stabilität kontrolliert und analysiert. Im Falle der Instabilität wird die Geschwindigkeit des Motors automatisch verringert. Falls das Problem anhält, wird der Motor angehalten und auf dem Bildschirm wird „STOPP“ angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob die Menge der Zutaten nicht zu groß ist, und, ob die Geschwindigkeit korrekt ausgewählt wurde.
- Überprüfen Sie, ob Sie das empfohlene Zubehör verwenden.
- Starten Sie Ihr Gerät anschließend neu.



Soßen



Suppen  
(Programm **P1** Cremesuppe/  
**P2** grob gemixte Suppe)



Schmortopf  
(Programm **P1** gedünstetes Gemüse / **P2** Schmortopf / **P3** Risotto)



Dampfgaren  
(im Programm **P1** schonendes Dampfgaren/  
**P2** intensives Dampfgaren)



Teigwaren  
(Programm **P1** Brot/  
**P2** Brioche /  
**P3** Sandkuchen)



Desserts

## VERWENDUNG DES GERÄTS

Stecken Sie den Stecker des Gerätes in die Steckdose, setzen Sie den Schalter (**H**) auf die Position 1; auf dem LCD-Display (**C**) erscheint „0“. (siehe Abb. 9).

### AUTOMATISCHER PROGRAMMBETRIEB



- 1- Drücken Sie auf das Programm Ihrer Wahl (**B1**); auf der Anzeige erscheint daraufhin unter dem ausgewählten Programm ein Dreieck (**C4**).

Bei den Programmen Suppen, Schmortopf, Teigwaren, können durch wiederholtes Drücken verschiedene Unterprogramme angezeigt werden.



- 2- Die vorprogrammierten Einstellungen, beispielsweise die Dauer, können (je nach ausgewähltem Rezept bzw. je nach Zutaten oder zubereiteten Mengen) geändert werden. Drücken Sie auf den Geschwindigkeitsregler (**B2**) oder auf den Gartemperaturregler (**B3**) oder auf den Zeitregler (**B4**); daraufhin blinkt die ausgewählte Einstellung auf der Anzeige auf (**C1-C2-C3**).



- 3- Stellen Sie diese Einstellung(-en) mittels des „+/-“-Reglers ein (**B6**).



- 4- Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die „Start“-Taste (**B7**), um das Programm zu starten. Wenn sich Ihr Gerät im Kochmodus befindet, leuchtet die rote Kontrollleuchte (**B3**) auf, um Ihnen anzuseigen, dass der Kochvorgang begonnen hat.

- 5- Drei Pieptöne signalisieren das Ende der Zubereitung.

- 6- Nach Abschluss der Programme Suppe, Sauce, Schmortopf P2 und P3, Dampfgaren und Desserts, schaltet das Gerät automatisch auf die 45-minütige

Warmhaltefunktion, um die Zubereitung verzehrbereit zu halten. Im Programm „Saucen“, bei schwacher Hitze köcheln P2 und P3, Dessert und im manuellen Modus, läuft der Motor des Gerätes mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Dadurch sollen die zubereiteten Lebensmittel warmgehalten und verhindert werden, dass diese am Boden des Behälters festkleben. Zum Abschalten der Warmhaltefunktion genügt es, die „STOPP“-Taste (**B7**) zu drücken. Wenn Sie den Deckel öffnen, auf die Griffe (**D2**) drücken oder den Behälter entfernen, wird die Warmhaltefunktion automatisch abgeschaltet.

Nach Beendigung der Programme für Sauce, Schmoren P2 und P3 und Dessertcreme dreht sich der Motor während der Warmhaltephase weiter, damit die Speisen nicht am Boden des Behälters haften bleiben.

Am Ende des Knetvorgangs der Teigwaren-Programme P1 und P2 geht das Gerät in den Modus „Teig aufgehen lassen“ über; hierbei beträgt die Temperatur während 40 Minuten 30°C und erlaubt es dadurch, Ihrem Teig ein größeres Volumen zu verleihen. Wenn Sie den Deckel öffnen, auf die Griffe (**D2**) drücken oder den Behälter entfernen, wird die Pause-Funktion des Geräts aktiviert. Um mit der Zubereitung fortzufahren, müssen Sie auf die „Start“-Taste drücken. Wenn Sie diesen Modus abschalten wollen, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die „Stopp“-Taste.

- 7- Drücken Sie auf die Griffe (**D2**), und heben Sie den gesamten Behälter hoch (**D**) (siehe Abb. 12).

Wenn ein automatisches Programm läuft, können Sie das Gerät jederzeit anhalten, indem Sie auf die „Stopp“-Taste drücken. Dadurch wird das automatische Programm in den Pause-Modus gesetzt. Sie können mit der Zubereitung fortfahren, indem Sie auf die „Start“-Taste drücken. Wenn Sie versehentlich das falsche Programm ausgewählt haben oder wenn Sie es abbrechen möchten, halten Sie 2 Sekunden lang die Taste „Stopp“ gedrückt.

## ENTDECKEN SIE DIE VORGESCHLAGENEN AUTOMATISCHEN PROGRAMME:

		Sauce	Suppe P1	Suppe P2	Schmortopf P1	Schmortopf P2	Schmortopf P3
Automatische Programme							
Zubehör							
„Standardgeschwindigkeit“ (einstellbar)		V6 (V2 bis V8)	10-mal Pulse und 2 min lang und Geschwindigkeitsstufe 12	30 s Geschwindigkeitsstufe 7 bis 10	Geschwindigkeitsstufe 3	Geschwindigkeitsstufe 1	Geschwindigkeitsstufe 2
„Standardtemperatur“ (einstellbar)		70°C (50°C bis 100°C)	100°C (90°C bis 100°C)	100°C (90°C bis 100°C)	130°C (nicht einstellbar)	95°C (80°C bis 100°C)	95°C (80°C bis 100°C)
„Standarddauer“ (einstellbar)		8 min (5 min bis 40 min)	40 min (20min bis 60 min)	45 min (20 min bis 60 min)	5 min (2 min bis 15 min)	45 min (10 min bis 2 St)	20 min (10 min bis 2 St)
Warmhalten als „Standard“ am Ende eines Programms		45 min	45 min	45 min		45 min	45 min
Motorgeschwindigkeit während des Warmhaltens		V4				5s ON bei G3 / 20s OFF	10s ON bei G3 / 10s OFF

		Dampfgaren P1	Dampfgaren P2	Teig P1	Teig P2	Teig P3	Dessert
Automatische Programme							
Zubehör							
„Standardgeschwindigkeit“ (einstellbar)				2 min 30 s Geschwindigkeitsstufe 5	1 min 30 s Geschwindigkeitsstufe 5, dann 2 min Geschwindigkeitsstufe 6	40 s Geschwindigkeitsstufe 3, dann 3 min Geschwindigkeitsstufe 9	V4 (V2 bis V8)
„Standardtemperatur“ (einstellbar)		100°C (nicht einstellbar)	100°C (nicht einstellbar)				90°C (50°C bis 110°C)
„Standarddauer“ (einstellbar)		30 min (1 min bis 60 min)	35 min (1 min bis 60 min)	2 min 30 s (30s bis 2 min 30 s)	3 min 30 s (30s bis 3 min 30 s)	3 min 40 s (1 min 40 s bis 3 min 40 s)	15 min (5 min bis 60 min)
Warmhalten als „Standard“ am Ende eines Programms		45 min	45 min				45 min
Motorgeschwindigkeit während des Warmhaltens				40 min	40 min		V4

## VERWENDUNG DES DAMPFKORBS

Die Garzeiten sind Richtwerte und sind in der Regel ausreichend.

Verschiedene Bedingungen können die Garzeit dennoch beeinflussen:

- Größe des Gemüses (geschnitten oder nicht geschnitten)
- Menge der Zutaten im Behälter
- Gemüsevielfalt und Reifegrad
- Menge an Wasser im Behälter, die der Messskala entsprechen muss (0,7 l)

Achten Sie darauf, den Dampfverschluss so einzusetzen, dass die Markierung „maxi“ (a) zu Ihnen hinzeigt

Wenn der Dampf nicht ausreicht, können Sie eine zusätzliche Garzeit einstellen.

DE

Sie können außerdem den manuellen Modus auswählen und die Temperatur 130 °C sowie je nach Art und Menge der Zutaten die entsprechende Garzeit einstellen. Siehe dazu die untenstehende Tabelle.

Dauer des Dampfgarens			
Zutaten	Mengen (max)	Geschätzte Kochdauer	Empfehlung für Dampfprogramm
Zucchini	800 g	20 min	P1
Pastinake	800 g	25 min	P1
Lauch (weißer Teil)	800 g	25 min	P1
Brokkoli	500 g	20 min	P1
Fisch	600 g (mit Backpapier)	15 min	P1
Kartoffeln	1 kg	30 min	P2
Karotten	1 kg	30 min	P2
Grüne Bohnen	800 g	30 min	P2
Helles Fleisch	600 g (mit Backpapier)	20 min	P2

Einige Rezepte können aufgrund des Auftretens von Blasenbildungen besonders stark überkochen, vor allem bei der Verwendung von tiefgefrorenem Gemüse. In diesem Fall müssen Sie die Mengen entsprechend verringern.

## MANUELLER BETRIEB:



- 1- Drücken Sie auf die Auswahltaste der Einstellung, die Sie ändern möchten: den Geschwindigkeitsregler (**B2**) oder den Gartemperaturregler (**B3**) oder den Zeitregler (**B4**).

Daraufhin blinkt der ausgewählte Parameter auf der Anzeige auf (**C1- C2-C3**).

- 2- Stellen Sie diese Einstellung (-en) mittels des „+/-“-Reglers ein (**B6**). Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, eine Änderung der Temperatur vorzunehmen, ohne eine Kochzeit einzustellen.



- 3- Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf die „Start“-Taste (**B7**). Wenn sich Ihr Gerät im Kochmodus befindet, leuchtet die rote Kontrollleuchte (**B3**) auf, um Ihnen anzuseigen, dass der Kochvorgang begonnen hat. Wurde das Programm gestartet, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das Gerät durch Drücken der „Stopp“-Taste anzuhalten.

In diesem Fall wird das Programm auf Pause geschaltet, zum Fortfahren drücken Sie einfach erneut auf die „Start“-Taste. Wenn Sie versehentlich

das falsche Programm ausgewählt haben oder wenn Sie es abbrechen möchten, halten Sie 2 Sekunden lang die Taste „Stopp“ gedrückt.

- 4- Drei Pieptöne signalisieren das Ende der Zubereitung.
- 5- Drücken Sie auf die Griffe (**D2**), und heben Sie den gesamten Behälter hoch (**D**) (siehe Abb. 12).

## Turbo-/Pulse-Funktion

- 1- Vom Bedienfeld (**B**) aus können Sie direkt auf die Funktionen „Turbo“ und „Pulse“ (**B5**) zugreifen. Für die Verwendung des **Turbo**-Modus (Höchstgeschwindigkeit) brauchen Sie nur die „Turbo“-Taste gedrückt zu halten. Das LCD-Display zeigt Ihnen anschließend die Betriebsdauer (**C3**) an. Für die Verwendung der **Pulse**-Funktion (Intervallbetrieb), brauchen Sie nur auf die „Pulse“-Taste zu drücken, um diese zu aktivieren bzw. zu stoppen. Auch in diesem Fall zeigt Ihnen das LCD-Display die Betriebsdauer an. Wurde die Funktion aktiviert, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das Gerät durch Drücken der „Stopp“-Taste anzuhalten. Dadurch der Pause-Modus aktiviert. Sie können mit der Zubereitung fortfahren, indem Sie erneut auf die „Start“-Taste drücken.

## WICHTIG - ERGÄNZUNG DER ANLEITUNG ZUR SICHERUNG DES GERÄTES („SECU“)



Ihr Gerät ist seriennmäßig mit elektronischen Motorschutzfunktionen ausgestattet, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Diese

elektronische Sicherung schützt Sie vor jeglicher abnormaler Verwendung. So ist Ihr Motor perfekt geschützt.

Unter bestimmten Bedingungen, bei einer sehr intensiven Verwendung, bei der die Empfehlungen der Anleitung nicht berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt „Inbetriebnahme“: mögliche Überladung und/oder ungewöhnlich lange Verwendung und/

oder zu kurze Aneinanderreihung von Zutaten) wird der elektronische Schutz ausgelöst, um den Motor zu schützen. In diesem Fall schaltet sich das Gerät aus und es erscheint die Anzeige „SECU“ auf dem LCD-Display des Bedienfeldes, um anzuseigen, dass das Gerät momentan nicht mehr einsatzbereit ist. Wenn „SECU“ auf Ihrem Bedienfeld erscheint und sich Ihr Gerät abschaltet, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Lassen Sie Ihr Gerät eingeschaltet, betätigen Sie nicht den Schalter „0/1“.
- Orientieren Sie sich an den Empfehlungen in der Anleitung, um Ihre Einstellungen wieder anzupassen (vgl. Abschnitt „INBETRIEBAHME“: Menge der Zutaten/Zubereitungszeit/Temperatur/

Zubehör).

- Warten Sie eine halbe Stunde, damit sich der Motor wieder abkühlt.
- Starten Sie Ihr Gerät neu, indem Sie 2 Sekunden lang den Knopf „Start/Stop/Reset“ drücken (Punkt B7 in der Anleitung).

Ihr Gerät ist wieder vollständig einsatzbereit. Der Kundendienst steht Ihnen bei sämtlichen Fragen zur Verfügung (weitere Informationen im Garantieheft).

## REINIGUNG DES GERÄTS

- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden. Halten Sie den Motorblock (**A**) niemals unter fließendes Wasser.

Nach Abschluss des Programms ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose.

- Reinigen Sie den Behälter sofort nach der Verwendung.
- Drücken Sie auf die Griffe (**D2**), und heben Sie den gesamten Behälter hoch (**D**).
- Stellen Sie den Behälter auf eine ebene Fläche.
- Entriegeln Sie den Deckel, indem Sie ihn eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn drehen. Nehmen Sie den Deckel vorsichtig ab.
- Die Bestandteile des Deckels (Dichtung, Dichtungsträger und Deckel) sind abnehmbar. Wenn die Teile abgekühlt sind, lösen Sie den Dichtungsträger des Deckels, indem Sie das Stielende des Reinigungsbürste (**I**) zwischen die zwei Elemente schieben und vorsichtig Druck ausüben, um sie zu trennen (vgl. Abb. 15).
- Gehen Sie vorsichtig mit den Messern des geschliffenen Ultrablade-Hackmessers (**F1**) und des Knet-/Mahlmessers (**F4**) um, wenn Sie sie reinigen und wenn Sie den Behälter leeren. Diese sind sehr scharf.
- Wenn die Teile abgekühlt sind:
  - Entfernen Sie den Antrieb (**D3**), die Dichtung (**D4**), den Sicherungsring (**D5**) (siehe Abb. Fig. 13).
  - Reinigen Sie den Behälter (**D**), den Antrieb (**D3**), die Dichtung (**D4**), den Sicherungsring (**D5**), die Zubehörteile (**F1**, **(F2)**, **(F3)**, **(F4)**, **(F5)**), den Dampfreglerverschluss (**E1**), den Deckel (**E2**), den Dichtungshalter (**E3**), den Dichtungsring (**E4**), mit einem Schwamm und warmem Seifenwasser.
- Spülen Sie die einzelnen Bestandteile unter fließendem Wasser.

- Wenn der Behälter verkalkt oder verschmutzt ist, können Sie den Topfkratzer verwenden und den Behälter, falls nötig, in weißem Essig oder einem Pflegeprodukt für Edelstahl einweichen.
- Bei starker Verschmutzung mehrere Stunden in Wasser mit Spülmittel einweichen lassen und, falls nötig, mit dem Küchenspatel (**G**) oder einem Topfkratzer abkratzen.
- Reinigen Sie den Motorblock (**A**) mit einem feuchten Tuch. Trocknen Sie ihn sorgfältig ab.
- Um Ihnen die Reinigung zu erleichtern, können Sie den Behälter, die Deckleinheit und die Zubehörteile in der Spülmaschine reinigen. Dies gilt nicht für den Antrieb (**D3** und **D4**) und den Sicherungsring (**D5**) (siehe Abb. 14).
- Bei der Zubereitung mit Zutaten wie Curry u. Ä., bzw. bei der Zubereitung von Karottensaft, usw. können sich die Zubehörteile, der abnehmbare Antrieb und die Deckel leicht verfärbten; dies beeinträchtigt jedoch keinesfalls Ihre Gesundheit oder die korrekte Funktionsweise Ihres Geräts. Reinigen Sie aus diesem Grund die Teile umgehend nach der Verwendung.
- Bevor Sie den kompletten Behälter (**D**) wieder verwenden, stellen Sie stets sicher, dass die elektrischen Kontakte unter dem Behälter sauber und trocken sind.
- Um die Materialien des Zubehörs nicht zu beschädigen, weichen Sie diese nicht zu lange in Wasser ein.
- Damit sich das Material der Schüssel (**D**) nicht verändert, beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihrer Geschirrspülmaschine; erhöhen Sie nicht die Dosis des Salzes oder der Produkte für die Geschirrspülmaschine.

## WAS TUN, WENN IHR GERÄT NICHT FUNKTIONIERT?

DE

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Lebensmittel nicht gar.	Die Garzeiten sind Richtwerte und sind in der Regel ausreichend. Verschiedene Bedingungen können die Garzeit dennoch beeinflussen: - Größe der Lebensmittel (geschnitten oder nicht geschnitten) - die Menge der Zutaten - Gemüsevielfalt und ihr Reifegrad - ob die Zutaten gefroren sind oder nicht ...	Verlängern Sie die Garzeit mithilfe des Zeitreglers (B4). Schneiden Sie die Zutaten kleiner.
	Dampfregulierungsschalter ist falsch eingestellt oder nicht eingesetzt.	Positionieren Sie den Einsatz mit „Dampf maxi“ in Ihre Richtung; mit dieser Einstellung erhalten Sie maximale Hitze im Behälter zum Dampfgaren verschiedenster Speisen (Suppen usw.). Diese Einstellung erzeugt ein Maximum an Wärme im Behälter für alle Garvorgänge (Suppen, Dampfgaren usw.). Mit dieser Einstellung werden Spritzer während des Mixvorganges verhindert. Die Einstellung „Dampf mini“ lässt eine maximale Menge an Kondenswasser entweichen und ermöglicht die ideale Konsistenz der Gerichte oder Saucen (Risotto, Dessertcremes, Saucen etc.).
Probleme beim Dampfgaren.	Zu wenig Wasser im Behälter. Zutaten sind zu groß.	Wassermenge im Behälter muss der Messskala entsprechen (0,7 l). Wenn der Dampf nicht ausreicht, können Sie eine zusätzliche Garzeit einstellen. Sie können außerdem den manuellen Modus auswählen und die Temperatur von 120 °C sowie je nach Art und Menge der Zutaten die entsprechende Garzeit einstellen. Schneiden Sie die Zutaten kleiner.
Zubereitung mancher Rezepte misslingt.	Rezepte sind nicht geeignet.	Ihre Rezepte, entweder eigene oder aus dem Internet, können nicht mit Ihrem Gerät und seinem Zubehör zubereitet werden (ungeeignete Mengen, Garzeiten, Dauer oder Zutaten). Beachten Sie bei der Zubereitung Ihres Rezeptes die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Gebrauchshinweise.

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
	Der Schalter ( <b>H</b> ) befindet sich in der Position 0.	Stellen Sie den Schalter auf die Position 1.
	Der Behälter oder der Deckel sind nicht richtig angeordnet oder eingerastet.	Prüfen Sie, ob der Behälter und der Deckel gemäß den Abbildungen in der Bedienungsanleitung aufgesetzt und eingerastet sind.
Der Deckel schließt nicht korrekt.	Der Deckel ist nicht komplett.	Überprüfen Sie ob die Dichtung korrekt mit dem Dichtungshalter zusammengesetzt, und der Dichtungshalter korrekt auf den Deckel aufgesetzt wurden.
Extrem starke Vibrationen.	Das Gerät steht nicht auf einer ebenen Fläche; das Gerät ist nicht stabil.	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
	Eine zu große Menge an Zutaten.	Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.
	Zubehörteile-Defekt.	Überprüfen Sie, ob Sie das empfohlene Zubehör verwenden.
Leichte Geräuschenentwicklung während des Betriebs.	Der Antrieb Ihres Gerätes kann während des Betriebs mit langsamer Geschwindigkeit oder mit bestimmten Zutaten (Reis ...) Geräusche erzeugen.	Dies ist eine vorübergehende Erscheinung, welche die Lebensdauer Ihres Gerätes nicht beeinträchtigt. Die Geräusche werden nach mehrmaligem Gebrauch und Reinigen des abnehmbaren Antriebs leiser oder verschwinden (lesen Sie den Abschnitt „Reinigung des Gerätes“).
Laute Geräusche während des Betriebs.	Falscher Gebrauch des Zubehörs.	Benutzen Sie bitte ein passendes Zubehör (z. B. nicht den Rührer F3 zum Kneten oder Mischen von Teigen benutzen, benutzen Sie das Knet-/Mahlmesser). Lesen Sie hierzu die Empfehlungen der Rezepte und die Gebrauchstipps in dieser Bedienungsanleitung.
Der Deckel leckt.	Eine zu große Menge an Zutaten.	Verringern Sie die Menge der verarbeiteten Zutaten.
	Der Deckel ist nicht richtig aufgesetzt oder eingerastet.	Schließen Sie den Deckel ordnungsgemäß auf dem Behälter.
	Der Dichtungsring ist nicht vorhanden.	Setzen Sie den Dichtungsring auf den Dichtungsträger und klipsen Sie die gesamte Einheit auf den Deckel.
	Der Dichtungsring ist durchgetrennt oder beschädigt.	Wechseln Sie die Dichtung oder kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
	Zubehörteile-Defekt.	Überprüfen Sie, ob Sie das empfohlene Zubehör verwenden.
Der Behälterantrieb leckt.	Die Dichtung wurde nicht korrekt eingesetzt.	Positionieren Sie die Dichtung korrekt.
	Die Dichtung ist beschädigt.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
	Der Sicherungsring ( <b>D5</b> ) wurde unzureichend befestigt.	Befestigen Sie den Ring korrekt ( <b>D5</b> ).
Die Messer drehen sich schwer.	Zu große oder zu harte Stücke.	Verringern Sie die Größe oder Menge der verarbeiteten Zutaten. Flüssigkeit hinzufügen.
Motorgeruch.	Bei der ersten Verwendung des Geräts oder bei Überlastung des Motors aufgrund einer zu großen Menge an Zutaten oder zu harter oder zu großer Stücke.	Lassen Sie den Motor abkühlen (etwa 30 Minuten) und verringern Sie die Menge der Zutaten im Behälter.

PROBLEME	URSACHEN	LÖSUNGEN
„STOP“ wird angezeigt.	Das Gerät vibriert zu stark und wurde in die Sicherheitsposition gesetzt.	Überprüfen Sie, ob die empfohlene Geschwindigkeit eingehaltenen wurde bzw., ob Sie das empfohlene Zubehörteil verwenden.
„SECU“ wird angezeigt.	Überlastung des Motors aufgrund einer zu großen Menge an Zutaten oder zu harter oder zu großer Stücke. Oder aufgrund von nah aufeinanderfolgenden Zubereitungen ohne ausreichende Abkühlzeiten.	Lassen Sie den Motor abkühlen (etwa 30 Minuten) und verringern Sie die Menge der Zutaten im Behälter.
„SECU“ wird angezeigt + rote LED blinkt.	Überheizung der Temperaturfühler.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
„Err1“ wird angezeigt + rote LED blinkt.	Das Heizelement funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob die Anschlussstifte für die Stromversorgung unter dem Behälter nicht verschmutzt sind. Wenn dies der Fall ist, reinigen Sie diese und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem trotzdem weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
„Err2“ wird angezeigt.	Elektronischer Defekt.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
„Err3“ wird angezeigt.	Geschwindigkeitsfehler.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
„Err4“ wird angezeigt.	Kommunikationsfehler mit der elektronischen Karte. Zerhacker.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
Anzeige „Err8“	Fehlfunktion des Sensors der Sicherheitsverriegelung	Wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstcenter.
„ntc1“ wird angezeigt + rote LED blinkt.	Der Temperaturfühler 1 funktioniert nicht mehr.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
„ntc2“ wird angezeigt + rote LED blinkt.	Der Temperaturfühler 2 funktioniert nicht mehr.	Kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
Anzeige der Sicherheitskontrollleuchte(C5). 	Behälter oder Deckel ist nicht korrekt befestigt.	Bevor Sie das Gerät einschalten, prüfen Sie, ob der Behälter korrekt auf dem Motorblock befestigt ist und ob der Deckel korrekt auf dem Behälter befestigt ist. Falls das Problem weiterbesteht, kontaktieren Sie ein zugelassenes Kundendienstzentrum.
Die Sicherheitsverriegelung des Deckels bleibt aktiviert (hervorstehender Stab), dadurch kann der Deckel nicht verschlossen werden.	Das Gerät kann während der Zubereitung ausgeschaltet werden, indem der I/O Schalter auf 0 gestellt oder einfach der Stecker aus der Steckdose gezogen wird.	Sie müssen lediglich den I/O Schalter auf I stellen, um die Küchenmaschine erneut zu starten und somit auch die Sicherheitsverriegelung des Deckels; der Stab nimmt automatisch seine Ausgangsposition wieder ein und Sie können nun den Deckel verschließen.

## Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht?

Wenden Sie sich an ein zugelassenes Kundendienstzentrum (siehe Liste im Serviceheft).

## RECYCLING

### • Entsorgung des Gerätes und der Verpackungsmaterialien



Die Verpackung besteht ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien, die nach den geltenden Recycling-Bestimmungen entsorgt werden können.

Für die Entsorgung des Gerätes informieren Sie sich bitte bei den zuständigen Stellen Ihrer Gemeinde.

### • Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte:

**Denken Sie an den Schutz der Umwelt!**



① Ihr Gerät enthält zahlreiche wiederverwertbare oder recyclebare Materialien.

② Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle ihrer Stadt oder Gemeinde.

### Per la sicurezza della persona

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta e conservarle: un utilizzo non conforme alle istruzioni per l'uso solleva il produttore da qualsiasi responsabilità.
- Collegare sempre l'apparecchio dall'alimentazione se viene lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia. Non consentire ai bambini di utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza.
- L'uso di questo apparecchio è vietato ai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori della portata dei bambini.
- Si sconsiglia l'utilizzo del presente apparecchio da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, se non in presenza di figure responsabili della loro sicurezza, che possano monitorarle ed istruirle preventivamente all'uso. Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio fuori della portata dei bambini.

- Durante l'uso dell'apparecchio, alcune sue parti raggiungono temperature elevate (parete inox del recipiente, cilindro guida comune remo-

vibile, parti trasparenti del coperchio e del tappo, parti metalliche sotto il recipiente, cestello). Possono provocare scottature. Maneggiare l'apparecchio toccando solo le parti fredde in plastica (impugnature, blocco motore). La spia luminosa che segnala il riscaldamento, di colore rosso, indica il rischio di scottature.

- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- Questo apparecchio non è predisposto per essere messo in funzione mediante un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui non funzioni correttamente, sia stato danneggiato o qualora il cavo di alimentazione o la presa risultino danneggiati. Per evitare qualsiasi tipo di rischio, richiedere obbligatoriamente la sostituzione del cavo presso un centro assistenza autorizzato (consultare l'elenco nelle istruzioni per l'uso).
- Questo apparecchio non deve essere immerso in acqua. Non mettere mai il blocco motore (**A**) sotto l'acqua corrente.
- L'apparecchio è destinato al solo uso domestico, all'interno dell'abitazione e ad altitudini inferiori ai 2000 m. Il fabbricante declina ogni



responsabilità e si riserva il diritto di annullare la garanzia in caso di un uso commerciale o improprio del dispositivo, o del mancato rispetto delle istruzioni.

- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come:

- in angoli cottura riservati al personale nei negozi, negli uffici e in altri ambienti professionali;
- in angoli cucina riservati al personale di punti vendita, uffici e altri ambienti professionali;
- nelle fattorie/agriturismi;
- da parte dei clienti di alberghi, motel e altre strutture a carattere residenziale;
- in ambienti di tipo B&B.



• L'apparecchio emette vapore, che può provocare scottature.

Maneggiare con attenzione il coperchio e il tappo (se necessario servirsi di un guanto, una presina, ecc.). Maneggiare il tappo impugnandolo nella parte centrale.

- Non attivare l'apparecchio se la guarnizione non è posizionata sul porta-guarnizione e se quest'ultimo non è assemblato nel coperchio. È tassativamente obbligatorio utilizzare l'apparecchio con il tappo inserito nell'apposito alloggiamento

del coperchio (tranne in caso di indicazioni specifiche per la ricetta).



**AVVERTENZA** Prestare attenzione ai rischi di infortunio in caso di cattivo utilizzo dell'apparecchio.

Prendere le dovute precauzioni nel maneggiare le lame affilate della mezzaluna (F1) e del coltello seghettato (F4) durante la pulizia e lo svuotamento del recipiente: sono estremamente taglienti.

Prestare particolare attenzione nel caso vengano versati nel robot da cucina liquidi caldi: potrebbero fuoriuscire dall'apparecchio in seguito ad un'ebollizione improvvisa. Riporre il coltello tritatutto Ultrablade (F1) nel contenitore dopo ogni utilizzo.

**AVVERTENZA** Procedere con cautela nel manipolare l'apparecchio (pulizia, riempimento e versamento): evitare qualunque traboccamiento del liquido sui connettori.

**AVVERTENZA** L'apparecchio emette vapore che può provocare bruciature.

**AVVERTENZA** La superficie della resistenza rimane ancora calda dopo l'uso.

Assicurarsi di toccare solo le

**impugnatura del prodotto (levette D2, impugnatura del coperchio E2 e del tappo E1) durante il riscaldamento e fino al raffreddamento completo.**

**Fare riferimento alle istruzioni d'uso per regolare la velocità e i tempi di funzionamento di ciascun accessorio e di ciascun programma.**

**Fare riferimento alle istruzioni d'uso per l'assemblaggio e il montaggio degli accessori sull'apparecchio.**

**Fare riferimento alle istruzioni d'uso per la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.**

**Seguire sempre le istruzioni per la pulizia dell'apparecchio:**

- **Scollegare l'apparecchio.**
- **Non pulire l'apparecchio quando è ancora caldo.**
- **Pulire con un panno o una spugna umida.**
- **Non immergere né mettere sotto l'acqua corrente l'apparecchio**

#### **SOLO MERCATI EUROPEI:**

- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte o la cui esperienza o conoscenza non siano sufficienti,

a condizione che ricevano una supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni in merito ad un uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano correttamente i potenziali pericoli.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni d'età, a condizione che ricevano una supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni in merito ad un uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano correttamente i potenziali pericoli. La pulizia e il mantenimento spettanti all'utente non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sotto la supervisione di un adulto.

#### **Collegamento elettrico**

- Collegare sempre l'apparecchio a una presa di corrente dotata di messa a terra.
- L'apparecchio è progettato per funzionare esclusivamente a corrente alternata. Verificare che la tensione di alimentazione indicata sulla targhetta dell'apparecchio corrisponda a quella dell'impianto elettrico di casa.
- Eventuali errori di collegamento annullano la garanzia.
- Non tirare mai il cavo d'alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo o la presa elettrica in alcun liquido.

- Il cavo di alimentazione non deve mai trovarsi vicino o a contatto con le parti calde dell'apparecchio, vicino a fonti di calore o ad angoli vivi.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore in funzione (piastre di cottura, elettrodomestici, ecc.).

## Cattivo utilizzo

- **Non toccare il coperchio prima del completo arresto dell'apparecchio (tasto stop): attendere che gli alimenti in lavorazione abbiano smesso di girare.**
- Nel recipiente, versare sempre gli ingredienti solidi prima di aggiungere quelli liquidi e non oltrepassare il livello massimo previsto di 2,5 l, segnalato con un'incisione all'interno del recipiente (**cfr. fig. 11**). Se il recipiente è troppo pieno, è possibile che fuoriesca acqua bollente.
- Attenzione: durante il programma di cottura al vapore, rispettare il livello di 0,7 l d'acqua (**cfr. fig. 4.2**).
- Non appoggiare mai le dita o qualsiasi altro oggetto nel recipiente durante il funzionamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare il recipiente come contenitore (per conservare, congelare, sterilizzare).
- Posizionare l'apparecchio su un piano di lavoro stabile, resistente al calore, pulito e asciutto.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a pareti o armadi: il vapore prodotto potrebbe danneggiarli.
- Non coprire il coperchio con canovacci o altro e non cercare di otturare la sua cavità: utilizzare il tappo di regolazione del vapore apposito.
- Mentre l'apparecchio è in funzione, non avvicinarsi con capelli, sciarpe, cravatte o simili sopra il recipiente.
- Non mettere gli accessori nel forno a microonde.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non superare mai le quantità massime indicate nelle istruzioni.
- Riporre l'apparecchio solo una volta che si è raffreddato completamente.
- Per raffreddare il recipiente, non usare il congelatore ma il frigorifero.

## Servizio post-vendita

- Per la propria sicurezza, non utilizzare accessori o parti di ricambio diverse da quelle fornite dai centri di servizio post-vendita autorizzati.
- Eventuali interventi diversi dalla pulizia e dalle normali operazioni di manutenzione spettanti all'utente devono essere svolti da un centro assistenza autorizzato.
- Consultare la tabella "Cosa fare se l'apparecchio non funziona?" riportata al termine delle istruzioni per l'uso.

Grazie per aver scelto questo apparecchio, progettato esclusivamente per la preparazione di alimenti in ambito domestico e in ambienti interni.



Consultando queste istruzioni per l'uso, si possono scoprire consigli di utilizzo che rivelano il potenziale dell'apparecchio: preparazione di salse, zuppe, piatti cotti a fuoco lento, piatti cotti al vapore, impasti e dolci.

IT

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

- A Blocco motore**
- B Quadro dei comandi**
- B1** : Tasti di selezione dei programmi automatici
  - B2** : Selettori di velocità
  - B3** : Selettori temperatura di cottura e/o spia luminosa di riscaldamento
  - B4** : Selettori durata di funzionamento
  - B5** : Selettori turbo/impulsi
  - B6** : Selettori +/-
  - B7** : Pulsante avvio/arresto/reset
- C Display LCD**
- C1** : Indicazione della velocità
  - C2** : Indicazione della temperatura
  - C3** : Indicazione del tempo
  - C4** : Indicazione del programma selezionato
  - C5** : Indicazione spia di sicurezza
- D Insieme recipiente**
- D1** : Recipiente inox
  - D2** : Levette
  - D3** : Cilindro guida comune removibile
  - D4** : Guarnizione
  - D5** : Anello di chiusura del cilindro
- E Gruppo coperchio**
- E1** : Tappo di regolazione del vapore
  - E2** : Coperchio
  - E3** : Porta-guarnizione
  - E4** : Guarnizione
- F Accessori**
- F0** : contenitore per accessori
  - F1** : Mezzaluna ultrablade
  - F2** : Miscelatore
  - F3** : Sbattitore
  - F4** : Lama per impasto/frantumazione
  - F5** : Cestello a vapore
- G Spatola**
- H Interruttore 0/1 per interrompere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio**
- I Spazzola per la pulizia**

## DATI TECNICI DELL'APPARECCHIO

<b>Potenza :</b>	1550W (1000W : Resistenza riscaldante/550 W: Motore)
<b>Range di temperatura :</b>	Da 30° a 130°C regolabile per incrementi di 5°C
<b>Durata di funzionamento :</b>	Da 5 secondi a 2 ore, regolabile per incrementi di 5 sec minimo a 1 min massimo.
<b>Numero delle velocità: 12</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 velocità intermittenenti: velocità 1 (5 sec acceso/20 sec spento). velocità 2 (10 sec acceso/10 sec spento).</li><li>- 10 velocità continue progressive (velocità da 3 a 12).</li></ul>

## AVVIO:

L'apparecchio è dotato di un interruttore 0/1. Portare l'interruttore su 1 (cfr. fig. 9). Con l'apparecchio sono forniti in dotazione gli accessori seguenti:

Coltello tritaturutto	F1	Miscelare zuppe		3min	2,5L	-->100°C
		Miscelare composte		40s	1Kg	-->100°C
		Tritare le verdure		15s	1Kg	-->100°C
		Tritare la carne		30s	1Kg	-->100°C
		Tritare il pesce		15s	1Kg	-->100°C
<b>!! Non utilizzare questo accessorio per tagliare prodotti duri; utilizzare il coltello impastatore / le lame per tritare F4.</b>						
Miscelatore	F2	Rosolatura		5min	500g	130°C
		Cottura a fuoco lento		45min	2,5L	95°C
		Risotti		22min	1,5Kg	95°C
Ratatouille, chutney, legumi (Impostazioni: vedi ricettario)						
Shattiatore	F3	Albumi montati a neve		5/10min	max	
		Maionese, panna montata		2/5min	0,5L	
		Salse, creme	Da 4 a 7	1/20min	1L	60>90°C
		Patate schiacciate	Da 6 a 7	1min	1L	
		Polenta	Da 4 a 5	1/16min	1L	90°C
<b>!! 9 max</b>						
Lama impastatrice/frantumatrice	F4	Impasto di pane bianco		2min 30s	1,2Kg	
		Impasto di pasta brisé, sablé, pani speciali		2min 30s	1Kg	
		Impasto di lieviti (brioche, ciambelle)	+	1min 30s		
			+	2min	0,8Kg	
		Lavorazione di impasti (torte soffici)	+	40s		
			+	3min	1Kg	
		Polverizzazione di frutti a guscio		1min	0,6Kg	
		Tritatura di prodotti duri		1min	0,6Kg	
		Pestatura del ghiaccio		1min	6 à 10	
		Pastella per crêpe, gaufre		1min	1,5L	
Cestello a vapore	F5	Cottura a vapore di verdure, pesce o carne		20/40min	1Kg	100°C
		Zuppe con pezzetti		40/45min	2,5L	100°C
Tappo	E1	Tappo di regolazione dell'estrazione del vapore			a  maxi b  mini	
		- Vapore massimo (a) = cottura a vapore. - Vapore minimo (b) = risotto, crema pasticcera, salse ...				

Questi accessori sono anche dotati di zone di impugnatura apposite, per facilitarne il maneggiamento durante l'uso e la preparazione delle ricette.

## L'APPARECCHIO È DOTATO DI 2 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:

- **Modalità programma automatico**

Velocità, temperatura di cottura e durata sono preimpostate; modalità adatta per la preparazione di salse, zuppe, cotture a fuoco lento, cotture al vapore, impasti e dolci in maniera automatica.

- **Modalità manuale**

Regolamentazioni personalizzate delle impostazioni di velocità, temperatura di cottura e durata, per utilizzare il dispositivo in base alle proprie preferenze.

## QUESTO APPARECCHIO È DOTATO DI UN SISTEMA DI BLOCCAGGIO DI SICUREZZA DEL COPERCHIO

Il coperchio viene bloccato a ogni avvio dell'apparecchio. Il sistema di sicurezza impedisce l'apertura del coperchio durante la preparazione di una ricetta (**Fig. 16**).

### Non tentare di forzare il coperchio quando è bloccato.

Il sistema di sicurezza si sblocca a ogni arresto dell'apparecchio.

Se è stata selezionata una temperatura superiore o pari a 50°C e una velocità superiore o pari a 5, sul display del pannello di controllo apparirà un conto alla rovescia di 10 secondi (**Fig. 17**).

L'apertura del coperchio sarà possibile esclusivamente al termine del conto alla rovescia.

## MONTAGGIO DEL RECIPIENTE, DEGLI ACCESSORI E DEL GRUPPO DEL COPERCHIO

Prima del primo utilizzo, lavare gli elementi (**D**, **E**, **F** e **G**) con acqua e sapone. Non lavare il blocco motore (**A**). Il recipiente (**D**) è dotato di un cilindro guida smontabile (**D3**) per facilitarne la pulizia.

- Assicurarsi di rimuovere tutti gli imballi prima dell'uso, in particolare la protezione fra il recipiente (**D**) e il blocco motore (**A**).

- Posizionare la guarnizione (**E4**) sul portoguarnizione (**E3**) (**cfr. fig. 1**) e agganciare i due elementi assemblati al coperchio (**E2**) (**cfr. fig. 2**).

- Posizionare la guarnizione (**D4**) sul cilindro guida comune (**D3**). Fissare l'insieme sul fondo del recipiente mediante l'anello di fissaggio (**D5**) (**cfr. fig. 3**).
- Posizionare l'accessorio scelto all'interno del recipiente:
  - gli accessori (**F1**, **F2**, **F3** o **F4**) sul cilindro guida comune situato sul fondo del recipiente (**cfr. fig. 4.1**);
  - il cestello a vapore all'interno del recipiente (**F5**) (**cfr. fig. 4.3**), dopo averlo riempito precedentemente con 0,7 l di preparato liquido (acqua, salsa). (**cfr. fig. 4.2**).
- Incorporare gli ingredienti all'interno del recipiente o del cestello a vapore.
- Posizionare il coperchio sul recipiente (**D**) allineando i due triangoli (**cfr. fig. 5**), bloccare il coperchio senza fare pressioni, ruotandolo nel senso della freccia (**cfr. fig. 6**).
- Posizionare il tappo di regolazione del vapore (**E1**) sul coperchio. Sono possibili due posizioni: vapore massimo (**a**) o vapore minimo (**b**).

**La posizione "vapore minimo"** permette di rilasciare la condensa massima e di ottenere anche dei piatti o delle salse dalla consistenza migliore (risotto, creme per dolci, salse, ecc.).

**La posizione "vapore massimo"** permette di raggiungere il calore e il vapore massimo nella pentola, per tutte le cotture a vapore (zuppe, ecc.).

Tale posizione evita allo stesso modo gli schizzi durante il mescolamento.

- Posizionare il recipiente (**D**) sul blocco motore (**A**): si deve udire un "click" sonoro (**cfr. fig. 8**).
- L'apparecchio parte solo se il recipiente e il coperchio sono correttamente posizionati e fissati sul blocco motore.

In caso di posizionamento errato o di un cattivo fissaggio di uno o dell'altro elemento (**cfr. fig. 10.1 e 10.2**), il logo si mette a lampeggiare quando si ten<sup>⑥</sup> di attivare una funzione.

## USO DEL QUADRO DEI COMANDI (B)

### Selezione di un programma automatico



Salse



Zuppe  
(sotto programma **P1**  
vellutate/**P2** passate)



Cottura a fuoco lento  
(sotto-programma **P1**  
stufato di verdure/**P2**  
cottura a fuoco lento/**P3**  
risotto)



Cottura al vapore  
(sotto programma **P1** vapore delicato/  
**P2** vapore intenso)



Impasti  
sotto-programma **P1** pane/**P2** brioche/  
**P3** torte soffici)



Dolci

IT

### Selezione delle impostazioni personalizzate



Selezione della velocità del motore.  
2 velocità intermittenze e 10 velocità continue progressive.



Aumento della velocità, della temperatura di cottura e della durata.

Diminuzione della velocità, della temperatura di cottura e della durata.



Selezione della temperatura di cottura.

Da 30° a 130°C.

Spia luminosa di riscaldamento:  
Si accende all'avvio della cottura e si spegne quando la temperatura interna del recipiente scende al di sotto dei 50°C.



Questo pulsante ha 3 funzioni:

- **“Conferma”** della scelta del programma automatico o delle impostazioni scelte quando si utilizza il dispositivo in modalità manuale (velocità, temperatura di cottura, tempo).
- **“Pausa”** durante l'uso, una volta che l'apparecchio è stato avviato.
- **“Reinizializzazione”** delle impostazioni selezionate tenendolo premuto per 2 secondi.



Selezione della durata di funzionamento.

Da 5 secondi a 2 ore.



Selezione delle funzioni **turbo** (velocità massima in accesso diretto) e **impuls** (andamento intermittente) senza ricorrere ad altre regolazioni.

### Consigli di utilizzo

L'apparecchio è dotato di un microprocessore che controlla e analizza la sua stabilità. In caso di instabilità, la velocità di rotazione del motore si riduce automaticamente. Se l'instabilità persiste, il motore si arresta e sullo schermo appare l'indicazione “STOP”.

- Verificare che la quantità degli ingredienti non sia eccessiva e che la velocità utilizzata sia idonea alla preparazione.
- Controllare che l'accessorio in uso sia quello raccomandato.
- Quindi, far ripartire normalmente l'apparecchio.

## USO DELL'APPARECCHIO

Collegare l'apparecchio, portare l'interruttore (**H**) su 1: lo schermo LCD (**C**) mostra tutte le impostazioni a "0" (cfr. fig. 9).

### MODALITÀ PROGRAMMA AUTOMATICO



1- Premere sul programma scelto (**B1**): sullo schermo appare un triangolo (**C4**) sotto il programma selezionato. In caso di programmi di zuppe, cotture a fuoco lento e impasti, premendo di nuovo è possibile scorrere i vari sotto-programmi.



2- Le impostazioni preprogrammate possono essere modificate per una sola ricetta (in base ricetta scelta, gli ingredienti, le quantità). Premere sul selettore di velocità (**B2**), sul selettore della temperatura di cottura (**B3**) o sul selettore del tempo (**B4**): il parametro scelto lampeggia sullo schermo (**C1-C2-C3**).



3- Regolare i parametri servendosi del selettore +/- (**B6**).



4- Una volta modificati tutti i parametri, premere il pulsante "start" (**B7**) per avviare il programma. Quando l'apparecchio è in modalità cottura, la spia luminosa rossa (**B3**) si accende per segnalare che la cottura è iniziata.

5- Quando il programma è terminato, l'apparecchio emette 3 bip.

6- Al termine dei programmi salsa, zuppa, cottura a fuoco lento P2 e P3, cottura a vapore e crema dolce, l'apparecchio passa automaticamente nella modalità di conservazione del calore per 45 minuti, per tenere al caldo la ricetta fino a quando non sarà consumata. Nel programma salse, cotture a vapore P2 e P3, dessert e in modalità manuale, il motore dell'apparecchio funziona a una velocità specifica, al fine di proteggere il preparato ed evitare che si attacchi al fondo della pentola. Per arrestare la conservazione del calore, basta premere sul tasto "stop" (**B7**). Aprendo il coperchio, premere sulle levette (**D2**) o estrarre il recipiente: la funzione di conservazione del calore si spegne automaticamente.

Alla fine dei programmi per le salse, per la cottura a fuoco lento P2 e P3 e per la crema pasticcera e durante la tenuta in caldo, il motore continua a girare al fine di evitare che il preparato aderisca al fondo della pentola. Al termine della lavorazione dell'impasto nei programmi impasto P1 e P2, l'apparecchio passa in modalità "lievitazione dell'impasto" a 30°C per 40 minuti, per dare un migliore volume al preparato. Aprendo il coperchio, premere sulle levette (**D2**) o estrarre il recipiente: l'apparecchio passa in modalità pausa e può essere riavviato premendo nuovamente su "start". Se si desidera arrestare questa modalità, premere per 2 secondi sul pulsante "stop".

7- Premere sulle levette (**D2**) e sollevare il gruppo del recipiente (**D**) (cfr. fig. 12).

Se si lavora con un programma automatico, si ha la possibilità di arrestare l'apparecchio in qualsiasi momento premendo sul pulsante "stop". Il programma automatico è quindi in modalità pausa: è possibile riavivarlo premendo nuovamente su "start". Se il programma scelto non è corretto e si desidera annullare, premere per 2 secondi sul pulsante "stop".

## ALLA SCOPERTA DEI PROGRAMMI AUTOMATICI

	Salse	Zuppa P1	Zuppa P2	Cottura a fuoco lento P1	Cottura a fuoco lento P2	Cottura a fuoco lento P3	
Programmi automatici							
Accessori							
Velocità preimpostata postata (regolabile)		V6 (da V2 a V8)	10 impulsi e V12 per 2 min	Da V7 a V10 per 30 sec	V3	V1	V2
Temperatura preimposta (regolabile)		70°C (da 50°C a 100°C)	100°C (da 90°C a 100°C)	100°C (da 90°C a 100°C)	130°C (non regolabile)	95°C (da 80°C a 100°C)	95°C (da 80°C a 100°C)
Tempo preimpostato postato (regolabile)		8 min (da 5 min a 40 min)	40 min (da 20min a 60 min)	45 min (da 20 min a 60 min)	5 min (da 2 min a 15 min)	45 min (da 10 min a 2h)	20 min (da 10 min a 2h)
Funzione di tenuta in caldo «predefinita» al termine del programma		45 min	45 min	45 min		45 min	45 min
Velocità motore nella tenuta in caldo		V4				5s On in V3 / 20s OFF	10s ON in V3 / 10s OFF

	Cottura al vapore P1	Cottura al vapore P2	Impasto P1	Impasto P2	Impasto P3	Dolci	
Programmi automatici							
Accessori							
Velocità preimpostata postata (regolabile)				V5 per 2 min 30 sec	V5 per 1 min 30 sec, quindi V6 per 2min	V3 per 40 sec, quindi V9 per 3 min	V4 (V2 a V8)
Temperatura preimposta (regolabile)		100°C (non regolabile)	100°C (non regolabile)				90°C (da 50°C a 110°C)
Tempo preimpostato (regolabile)		30 min (da 1 min a 60 min)	35 min (da 1 min a 60 min)	2,5 min (da 30s a 2 min 30s)	3,5 min (da 30s a 3 min 30s)	3 min 40s (da 1 min 40s à 3 min 40s)	15 min (da 5 min a 60 min)
Funzione di tenuta in caldo «predefinita» al termine del programma		45 min	45 min				45 min
Velocità motore nella tenuta in caldo				40 min	40 min		V4

## USO DEL CESTELLO VAPORE

I tempi di cottura forniti hanno un valore indicativo, permettendo una cottura soddisfacente nella maggior parte dei casi.

Alcune condizioni influenzano, tuttavia, i tempi di cottura :

- la grandezza delle verdure (tagliate o meno)
- la quantità degli ingredienti nel cestello
- la varietà delle verdure e quanto sono mature
- la quantità d'acqua nella pentola, che corrisponde alla graduazione (0,7L).

È possibile inoltre utilizzare la modalità manuale, selezionando la temperatura di 130°C e i tempi di cottura, secondo la quantità e il tipo d'ingrediente: si veda la tabella qui di seguito.

Tempi di cottura al vapore			
Ingredienti	Quantità (max)	Tempi di cottura stimati	Programma vapore raccomandato
Zucchine	800 g	20 min	P1
Pastinaca	800 g	25 min	P1
Porri (parte bianca)	800 g	25 min	P1
Broccoli	500 g	20 min	P1
Pesce	600 g (con carta alimentare adatta alla cottura)	15 min	P1
Patate	1 kg	30 min	P2
Carote	1 kg	30 min	P2
Fagiolini	800 g	30 min	P2
Carni bianche	600 g (con carta alimentare adatta alla cottura)	20 min	P2

Alcune ricette possono provocare fuoruscite improvvise causate dalla comparsa di bolle, in particolare nel caso della cottura di verdure congelate. In questo caso, ridurre i volumi di conseguenza.

IT

Prestare attenzione all'utilizzo del tappo vapore nel senso "vapore massimo" (a) rivolto verso di voi.

Nel caso in cui la cottura non sia sufficiente, è possibile aggiungere un tempo di cottura supplementare.

## MODALITÀ MANUALE



1 - Premere direttamente sul selettori del parametro che si è scelto di regolare, ovvero quello della velocità (B2), quello del selettore della temperatura di cottura (B3) o sul selettore del tempo (B4): il parametro scelto lampeggia sullo schermo (C1-C2-C3).

2 - Regolare i parametri servendosi del selettore +/- (B6). Per sicurezza, non è possibile regolare la temperatura senza regolare i tempi di cottura.

3 - Quando si è terminata la modifica di tutti i parametri, premere il pulsante "avvio" (B7). Quando l'apparecchio è in modalità cottura, la spia luminosa rossa (B3) si accende per segnalare che la cottura è iniziata. Quando viene avviato il programma, l'apparecchio può essere arrestato in qualsiasi momento premendo sul pulsante "stop".

Il programma è quindi in pausa: è possibile riaviarlo premendo nuovamente su "start". Se il programma scelto non è corretto e si desidera

annullare, premere per 2 secondi sul pulsante "stop".

4 - Quando il programma è terminato, l'apparecchio emette 3 bip.

5 - Premere sulle levette (D2) e sollevare il gruppo del recipiente (D) (cfr. fig. 12).



### Funzioni turbo/impulsi

1 - Direttamente dal quadro dei comandi (B), accedere alle funzioni "turbo" e "impulsi" (B5). Per l'utilizzo in modalità turbo (velocità massima in accesso diretto), è sufficiente tenere premuto il selettore "turbo". Lo schermo LCD mostra quindi il tempo di utilizzo (C3) per assistere l'utente. Per avviare la modalità ad impulsi (andamento intermittente), attivare e arrestare la funzione premendo semplicemente il selettore "impulsi". Anche in questo caso, lo schermo LCD assiste l'utente indicando il tempo di utilizzo. Una volta avviata la funzione, si ha la possibilità di arrestare l'apparecchio in qualsiasi momento premendo sul pulsante "stop". La funzione è quindi in modalità pausa: è possibile riavivarla premendo nuovamente su "start".

## ISTRUZIONI D'USO SULLA MESSA IN SICUREZZA DELL'APPARECCHIO ( " SECU " )



**anomalo; in tal modo il motore è perfettamente protetto.**

In determinate condizioni di utilizzo molto intenso o di preparazione di ricette personali (ad es. scaricate da Internet) che non rispettano le istruzioni per l'uso (Cf. paragrafo «AVVIAMENTO»: quantità eccessive e/o utilizzo eccessivamente lungo e/o sequenza raccapricnata di preparazioni), la protezione elettronica si attiva per preservare il motore. In questo caso, l'apparecchio si arresta

e sul display del pannello di controllo apparirà "SECU", a indicare che l'apparecchio non è momentaneamente operativo.

**Se si visualizza " SECU " sul quadro di comando e l'apparecchio si arresta, procedere nel seguente modo:**

- Lasciare l'apparecchio in funzione, non attivare l'interruttore " 0/1 ".
- Fare riferimento alle raccomandazioni delle istruzioni d'uso per riadattare la preparazione (Cfr. paragrafo " AVVIAMENTO " : quantità di ingredienti / tempo della ricetta/temperatura/ tipo accessori)
- Attendere mezz'ora affinché il motore si raffreddi.
- Reimpostare l'apparecchio premendo 2 secondi sul pulsante " Start /Stop/Reset " (punto B7)

nelle istruzioni d'uso).

L'apparecchio è di nuovo completamente pronto all'uso.

Il servizio consumatori è disponibile per qualsiasi domanda (maggiori dettagli nel libretto di garanzia).

## PULIZIA DELL'APPARECCHIO

- Questo apparecchio non deve essere immerso in acqua. Non mettere mai il blocco motore (A) sotto l'acqua corrente.

Una volta terminato l'uso dell'apparecchio, scollararlo.

- Pulire immediatamente il recipiente dopo l'uso.
- Premere sulle levette (D2) e sollevare il gruppo del recipiente (D).
- Posizionare il recipiente su una superficie piana.
- Sbloccare il coperchio ruotandolo di un quarto di giro in senso orario. Rimuovere il coperchio con attenzione!
- Gli elementi del coperchio (guarnizione, porta-guarnizione e coperchio) sono smontabili. Quando gli elementi si sono raffreddati, separare il porta-guarnizione dal coperchio facendo scorrere l'estremità del manico della spazzola per la pulizia (I) tra i due elementi ed esercitazione una forte pressione per separarli (Cf. Fig. 15).
- Prendere le dovute precauzioni nel maneggiare le lame affilate della mezzaluna (F1) e del coltello seghettato (F4) durante la pulizia e lo svuotamento del recipiente: sono estremamente taglienti.
- Una volta che gli elementi si sono raffreddati:
  - smontare il cilindro guida comune (D3), la guarnizione (D4) e l'anello di fissaggio (D5) (cfr. fig. 13).
  - pulire il recipiente (D), il cilindro guida comune (D3), la guarnizione (D4) e l'anello di fissaggio (D5), gli accessori (F1) (F2) (F3) (F4) (F5), il tappo di regolazione del vapore (E1), il coperchio (E2), il porta

guarnizione (E3) e la guarnizione (E4) con una spugna e acqua calda e sapone.

- Sciacquare gli elementi sotto l'acqua corrente.
- In caso di calcare sul recipiente o di macchie, utilizzare la parte ruvida di una spugna imbevuta, se necessario, di aceto di vino bianco o prodotti detergenti adatti all'acciaio inox.
- In caso di incrostazioni pronunciate, lasciare in immersione per diverse ore in acqua e detersivo per i piatti; se necessario, grattare con la spatola (G) o con il lato ruvido di una spugna.
- Per pulire il blocco motore (A), utilizzare un panno umido. Asciugarlo con cura.
- Per facilitare la pulizia, il recipiente, il gruppo coperchio e gli accessori possono essere lavati in lavastoviglie. Non possono invece essere messi in lavastoviglie il cilindro comune (D3 e D4) e l'anello di fissaggio (D5) (cfr. fig. 14).
- Gli accessori, il cilindro comune removibile e gli elementi del coperchio, con certi ingredienti potrebbero colorarsi leggermente, come con il curry, il succo di carote e simili. Questo non costituisce un pericolo per la salute, né per il buon funzionamento dell'apparecchio. Per evitare colorazioni, pulire gli elementi subito dopo l'uso.
- Prima di riutilizzare il gruppo contenitore (D), controllare che i contatti elettrici sotto la pentola siano sempre puliti e asciutti.
- Per non alterare i materiali del cilindro guida comune, non lasciarlo nell'acqua troppo a lungo.
- Per non alterare i materiali del recipiente (D), rispettare le istruzioni per l'uso della propria lavastoviglie senza aumentare le dosi di sale o detersivo.

IT

## COSA FARE SE L'APPARECCHIO NON FUNZIONA?

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
IT Cottura insufficiente	I tempi di cottura forniti hanno un valore indicativo, permettendo una cottura soddisfacente nella maggior parte dei casi. Alcune condizioni influenzano, tuttavia, il tempo di cottura: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le dimensioni degli alimenti (tagliati o meno)</li> <li>- la quantità degli ingredienti</li> <li>- la varietà delle verdure e il loro grado di maturazione</li> <li>- se gli ingredienti sono surgelati o meno...</li> </ul>	Aggiungere un tempo di cottura supplementare usando il selettori della durata di funzionamento (B4). Ridurre le dimensioni dei pezzi.
	Tappo di regolazione del vapore posizionato non correttamente o assente	Posizionare il tappo vapore verso di sé, nel senso "vapore massimo"; tale posizione consente di avere un massimo di calore nel recipiente per tutti i tipi di cottura (zuppe, cottura a vapore, ecc.). Tale posizione evita inoltre gli schizzi durante il mescolamento. La posizione «vapore minimo» permette di rilasciare un massimo di condensa per ottenere pietanze o salse di migliore consistenza (risotto, creme per dolci, salse, ecc.).
Cottura al vapore non soddisfacente	Quantità d'acqua nel recipiente non adeguata. Pezzi troppo grandi.	La quantità d'acqua nel recipiente deve corrispondere alla tacca (0,7 L). È anche possibile utilizzare la modalità manuale selezionando la temperatura di 120°C e il tempo di cottura in base alla quantità e al tipo di ingredienti. Ridurre la dimensione dei pezzi.
Difficoltà nella riuscita di alcune ricette	Ricette non adatte	Le ricette personali o scaricate da Internet possono non essere adatte all'apparecchio e ai suoi accessori (quantità, tempo di cottura, durata, accessori non adeguati): prima di iniziare la preparazione, assicurarsi di rispettare le istruzioni per l'uso riportate in questo manuale.
L'apparecchio non funziona.	La presa non è collegata.	Collegare l'apparecchio a una presa di corrente.
	L'interruttore (H) è in posizione 0.	Portare l'interruttore in posizione 1.
	Il recipiente o il coperchio non sono correttamente posizionati o fissati.	Verificare che il recipiente o il coperchio siano correttamente posizionati e bloccati come descritto nelle illustrazioni delle istruzioni.
Il coperchio non si blocca.	Il coperchio non è completo.	Verificare che la guarnizione sia assemblata correttamente sul porta-guarnizione e che il porta-guarnizione sia correttamente assemblato sul coperchio.

PROBLEMA	CAUSE	SOLUZIONI
Vibrazioni eccessive.	L'apparecchio non è posizionato su una superficie piana, non è stabile.	Posizionare l'apparecchio su una superficie piana.
	Un volume di ingredienti eccessivo.	Ridurre la quantità degli ingredienti in preparazione.
	Errore nella scelta degli accessori.	Controllare che l'accessorio in uso sia quello raccomandato.
Leggere rumore durante il funzionamento	Il cilindro dell'apparecchio può essere un po' rumoroso durante il funzionamento a bassa velocità o con alcuni ingredienti (ad es. il riso).	È un fenomeno passeggero che non ha conseguenze sulla durata di vita dell'apparecchio. Si attenuerà o scomparirà dopo qualche utilizzo e la pulizia del cilindro guida comune removibile (fare riferimento al paragrafo "Pulizia dell'apparecchio").
Rumore eccessivo durante il funzionamento	Uso di un accessorio non corretto	Utilizzare accessori adeguati (ad es. non usare lo sbattitore F3 per impastare o mescolare impasti; usare la lama impastatrice F4). Fare riferimento alle raccomandazioni relative alle ricette e alle istruzioni per l'uso riportate in questo manuale.
Fuoriuscite dal coperchio.	Un volume di ingredienti eccessivo.	Ridurre la quantità degli ingredienti in preparazione.
	Il coperchio non è ben posizionato o fissato.	Fissare correttamente il coperchio sulla ciotola.
	Manca la guarnizione.	Posizionare la guarnizione sul porta-guarnizione e agganciare il gruppo al coperchio.
	La guarnizione è tagliata, deteriorata.	Cambiare la guarnizione, contattare un centro assistenza autorizzato.
	Errore nella scelta degli accessori.	Controllare che l'accessorio in uso sia quello raccomandato.
Fuoriuscita dal cilindro del recipiente.	La guarnizione non è ben posizionata.	Posizionare correttamente la guarnizione.
	La guarnizione è tagliata, deteriorata.	Contattare un centro assistenza autorizzato.
	L'anello di fissaggio ( <b>D5</b> ) è fissato male.	Fissare correttamente l'anello ( <b>D5</b> ).
Le lame non girano facilmente.	Pezzetti di ingredienti troppo grossi o troppo duri.	Ridurre la dimensione o la quantità degli ingredienti in preparazione. Aggiungere del liquido.
Il motore emette odori.	Al primo utilizzo dell'apparecchio, oppure in caso di sovraccarico del motore provocato da una quantità d'ingredienti troppo eccessiva o da pezzi troppo duri o troppo grandi.	Fare raffreddare il motore (circa 30 minuti) e ridurre la quantità degli ingredienti nel recipiente.
Indicazione "STOP".	L'apparecchio ha rivelato vibrazioni troppo forti ed è passato in posizione di sicurezza.	Controllare che l'apparecchio sia alla velocità indicata o che l'accessorio in uso sia quello raccomandato.
Indicazione "SECU".	Sovraccarico del motore provocato da una quantità d'ingredienti eccessiva o da pezzi troppo duri o troppo grandi o una successione di ricette, senza i sufficienti tempi di raffreddamento.	Fare raffreddare il motore (circa 30 minuti) e ridurre la quantità degli ingredienti nel recipiente.

PROBLEMA	CAUSE	OLUZIONI
Indicazione "SECU" + spia rossa luminosa lampeggiante	Sovraccarico dei rilevatori di temperatura.	Contattare un centro assistenza autorizzato.
Indicazione "Err1" + spia rossa luminosa lampeggiante	La resistenza di riscaldamento non funziona.	Verificare che le spazzole d'alimentazione sotto il recipiente non siano ricoperte di grasso. In caso affermativo, pulirle e riprovare. Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza autorizzato.
Indicazione "Err2".	Guasto elettronico.	Contattare un centro assistenza autorizzato.
Indicazione "Err3".	Guasto velocità.	Contattare un centro assistenza autorizzato.
Indicazione "Err4".	Guasto di comunicazione con la carta elettronica chopper.	Contattare un centro assistenza autorizzato.
Sul display appare "Err8"	Malfunzionamento sensore sicurezza di bloccaggio	Contattare un centro di assistenza autorizzato.
Indicazione "ntc1" + spia rossa luminosa lampeggiante.	Il rilevatore di temperatura 1 ha smesso di funzionare.	Contattare un centro assistenza autorizzato.
Indicazione "ntc2" + spia rossa luminosa lampeggiante.	Il rilevatore di temperatura 2 ha smesso di funzionare.	Contattare un centro assistenza autorizzato.
Accensione della spia di sicurezza (C5) 	Chiusura non corretta del recipiente o del coperchio	Prima di mettere in funzione l'apparecchio, verificare se il recipiente è bloccato correttamente sul blocco motore e se il coperchio è bloccato correttamente sul recipiente. Se il problema persiste, contattare un centro di assistenza autorizzato.
Il dispositivo di bloccaggio del coperchio è rimasto attivo (asticella sollevata), impedendo la chiusura del coperchio.	L'apparecchio è stato scollegato dalla rete elettrica o è stato spento tramite l'interruttore durante una ricetta.	Portare l'interruttore in posizione «I» per riavviare l'apparecchio e ripristinare il dispositivo di bloccaggio del coperchio; l'asticella tornerà nella posizione originale, consentendo la chiusura del coperchio.

### L'apparecchio continua a non funzionare?

Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (consultare l'elenco nel libretto di istruzioni).

## RICICLAGGIO

- Eliminazione dei materiali di imballaggio e dell'apparecchio



L'imballaggio si compone esclusivamente di materiali non dannosi per l'ambiente che possono essere smaltiti conformemente alle disposizioni in vigore in materia di riciclaggio. Per lo smaltimento dell'apparecchio rivolgersi presso il centro servizi apposito della propria zona.

- Prodotti elettrici o elettronici da smaltire

**Contribuiamo alla salvaguardia dell'ambiente!**



● Questo apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere smaltiti o riciclati.

● Per lo smaltimento rivolgersi ad un centro per la raccolta differenziata.

## CONSEJOS DE SEGURIDAD

### Con respecto a la seguridad de la persona

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar por primera vez el aparato y guárdelas: un uso no conforme con las instrucciones de uso eximiría al fabricante de cualquier responsabilidad.
- Desconecte siempre el aparato de la corriente eléctrica si se deja sin supervisión o antes de montarlo/ desmontarlo o limpiarlo. No permita que los niños utilicen el aparato sin la supervisión de un adulto.
- Los niños no deben utilizar el aparato. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimientos, salvo si estas están vigiladas por una persona responsable de su seguridad o si han recibido instrucciones relativas al uso del aparato.

Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

- Mantenga el aparato fuera del

alcance de los niños.

- Cuando se utiliza el aparato, ciertas piezas alcanzan temperaturas elevadas (pared de acero inoxidable del bol, accionador común móvil, partes transparentes de la tapa y del tapón, piezas metálicas debajo del bol, cesta). Estas piezas pueden provocar quemaduras. Manipule el aparato por las piezas de plástico que están frías (asas, bloque motor). El testigo luminoso de calentamiento de color rojo indica que existe riesgo de quemadura.
- La temperatura de las superficies accesibles puede aumentar cuando el aparato esté en funcionamiento.
- El aparato no debe ponerse en marcha mediante un temporizador exterior ni por un sistema de mando a distancia externo.
- No utilice el aparato si este no funciona correctamente, si está dañado o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. Para evitar cualquier peligro, lleve el cable a un centro de servicio autorizado para que lo cambien (consulte la lista en el cuaderno de servicio).
- No sumerja el aparato. No pase el bloque motor (**A**) por debajo del

ES

agua corriente.

ES

- Este aparato se destina únicamente a un uso doméstico en el hogar y a una altitud inferior a 2000 m. El fabricante declina cualquier responsabilidad y se reserva el derecho a rescindir la garantía en caso de un uso comercial o inadaptado, o de no respetar las consignas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares (uso no cubierto por la garantía) tales como
  - zona de trabajo de cocina en almacenes, oficinas y otros entornos profesionales,
  - zonas de cocina reservadas para el personal de almacenes, oficinas y otros entornos profesionales,
  - granjas,
  - uso por parte de clientes de hoteles, moteles y otros entornos con carácter residencial.
  - lugares como habitaciones de huéspedes.



- Su aparato emite vapor que puede provocar quemaduras. Manipule con precaución la tapa y el tapón (si es necesario, utilice un guante, una manopla, etc.). Manipule el tapón por su parte central.

- No ponga el aparato en funcionamiento si la junta no está colocada sobre su soporte, si dicho soporte no está montado en la tapa. Resulta imperativo utilizar el aparato con el tapón colocado en el orificio de la tapa (salvo en caso de información específica de la receta).



- Atención: corre el riesgo de sufrir heridas si utiliza incorrectamente el aparato. Tenga cuidado con las hojas de la cuchilla picadora (F1) y de la cuchilla de sierra (F4) a la hora de limpiarlas y a la hora de vaciar el bol, están sumamente afiladas. Debe vigilar si vierte un líquido caliente en el robot de cocina, ya que puede salir del aparato debido a una ebullición repentina. Guarde la cuchilla picadora Ultrablade (F1) en el bol después de cada uso.

**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado al manipular el aparato (limpieza, llenado y vertido): evite salpicar el líquido en los conectores.

**ADVERTENCIA:** El aparato desprende vapor que puede provocar quemaduras. **ADVERTENCIA:** La superficie del elemento calefactor presenta un calor residual después del uso.

Asegúrese de no tocar más que las asas

**de su producto (pulsador D2, asa de la tapa E2 y el tapón E1) mientras calienta y hasta su completo enfriamiento.**

Consulte el manual de instrucciones para ajustar la velocidad y el tiempo de funcionamiento de cada accesorio y cada programa.

Consulte el manual de instrucciones para saber cómo ensamblar y montar los accesorios en el aparato

Consulte el manual de instrucciones para saber cómo limpiar y mantener el aparato.

Siga siempre las instrucciones de limpieza para limpiar el aparato:

- Desenchufe el aparato.
- No limpie el aparato en caliente.
- Limpie el aparato con un paño o una esponja húmeda.
- Nunca sumerja el aparato en agua ni bajo el agua corriente

**SOLO MERCADOS EUROPEOS**

- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños de menos de 8 años.

Los niños no deben utilizar el aparato como un juguete.

- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o cuya experiencia o conocimientos no sean suficientes, siempre que sean vigiladas o que hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro

del aparato y que comprendan bien los posibles peligros.

- Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años siempre que sean vigilados o que hayan recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y que comprendan bien los peligros implicados. La limpieza y el mantenimiento no los han de llevar a cabo niños sin vigilancia, salvo que tengan 8 años como mínimo y estén supervisados por un adulto.

ES

**Con respecto a la conexión eléctrica**

- El aparato debe enchufarse a una toma conectada a tierra.
- Este aparato está diseñado para funcionar únicamente con corriente alterna. Asegúrese de que la tensión de alimentación señalada en la placa indicadora del aparato se corresponde efectivamente con la de la instalación eléctrica.
- Cualquier error en la conexión anulará la garantía.
- No tire nunca del cable de alimentación para desconectarlo.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en un líquido.
- No deje nunca el cable de alimentación cerca o en contacto con las partes calientes de su aparato, cerca de una fuente de calor o de un ángulo cortante.

## Con respecto a un uso incorrecto

- **No toque la tapa antes de que el aparato se haya detenido completamente (botón «stop»), espere a que los alimentos mezclados dejen de girar.**
- Vierta siempre los ingredientes sólidos en primer lugar en el bol antes de añadir los ingredientes líquidos, sin sobrepasar la marca 2,5 L MAX grabada en el interior del bol (**consulte la Fig. 11**). Si el bol está demasiado lleno, el agua hirviendo puede salirse de él.
- En el programa de cocción al vapor, respete el nivel de 0,7 litros de agua (**consulte la Fig. 4.2**).
- No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en el bol mientras el aparato se encuentre en funcionamiento.
- No utilice el bol como recipiente (conservación, congelación, esterilización).
- Coloque el aparato en un lugar estable, resistente al calor, limpio y seco.
- No coloque el aparato cerca de un muro o de un mueble: el vapor generado puede dañar los elementos.
- No coloque el aparato cerca de una fuente de calor en funcionamiento (placa de cocción, aparato electrodoméstico, etc.).
- No cubra su tapa con paños ni nada similar, no intente tapar el orificio de la tapa, utilice el tapón regulador de vapor.
- No permita que haya cabello largo, bufandas o corbatas que queden colgando por encima del bol mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No introduzca nunca los accesorios en un microondas.
- No utilice el aparato al aire libre.
- No sobrepase nunca la cantidad máxima indicada en las instrucciones.
- Guarde el aparato cuando se haya enfriado.
- No coloque el bol en el congelador para enfriarlo, utilice el frigorífico.

## Servicio posventa

- Para su seguridad, no utilice accesorios ni piezas de recambio distintos a los suministrados por los centros de servicio posventa autorizados.
- Cualquier intervención por parte del cliente diferente de la limpieza y el mantenimiento deberá llevarse a cabo en un centro de servicio autorizado.
- Consulte el cuadro «¿Qué hacer si su aparato no funciona?» al final de las instrucciones de uso.

Le agradecemos haber elegido este aparato, diseñado exclusivamente para la preparación de alimentos en un entorno doméstico y en interiores.



Al leer estas instrucciones descubrirá consejos de uso que le harán entrever el potencial de su aparato: preparación de salsas, sopas, cocción lenta, platos al vapor, masas y postres.

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

**A** Bloque motor

**B** Cuadro de mandos

**B1** : botones de selección de programas automáticos

**B2** : selector de velocidad

**B3** : selector de temperatura de cocción o testigo luminoso de calentamiento

**B4** : selector de tiempo de funcionamiento

**B5** : selector turbo/pulse

**B6** : selector +/-

**B7** : botón start/stop/reset

**C** Pantalla LCD

**C1** : indicador de velocidad

**C2** : indicador de temperatura

**C3** : indicador de tiempo

**C4** : indicador de selección de programa

**C5** : indicador de testigo de seguridad

**D** Conjunto del bol

**D1** : bol de acero inoxidable

**D2** : gatillos

**D3** : accionador común móvil

**D4** : junta de estanqueidad

**D5** : anillo de bloqueo del accionador

**E** Conjunto tapa

**E1** : tapón regulador de vapor

**E2** : tapa

**E3** : soporte de junta

**E4** : junta de estanqueidad

**F** Accesorios

**F0** : Compartimento para accesorios

**F1** : cuchilla picadora ultrablade

**F2** : mezcladora

**F3** : batidora

**F4** : cuchilla para amasar/triturar

**F5** : cesta para cocción al vapor

**G** Espátula

**H** Interruptor 0/1 para interrumpir la alimentación eléctrica del aparato

**I** Cepillo de limpieza

ES

## DATOS TÉCNICOS DEL APARATO

**Potencia :** 1550 W (1000 W: resistencia de calentamiento/550 W: motor)

**Intervalo de temperaturas :** de 30 °C a 130 °C  
ajustable a intervalos de 5 °C.

**Intervalo de tiempo del funcionamiento :** de 5 segundos a 2 horas  
ajustable a intervalos de 5 segundos (mínimo) a 1 minuto (máximo).

**Número de velocidades:** 12  
- 2 velocidades intermitentes:  
velocidad 1 (5 s On / 20 s Off).  
velocidad 2 (10 s On / 10 s Off).  
- 10 velocidades continuas progresivas (velocidades 3 a 12).

## PUESTA EN SERVICIO:

Su aparato está equipado con un interruptor 0/1, gire el interruptor a la posición 1.  
 (Consulte la Fig. 9). Su aparato dispone de los siguientes accesorios:

Cuchilla picadora  	Mezclar sopas		3min	2,5L	-->	
	Mezclar compotas		40s	1Kg	-->	
	Picar verduras		15s	1Kg	-->	
	Picar carne		30s	1Kg	-->	
	Picar pescado		15s	1Kg	-->	
<b>!!</b> No utilice este accesorio para picar productos duros. Utilice la cuchilla amasadora/trituradora F4.						
Mezcladora  	Platos con fase dorado		3	5min	500g	
	Estofados		1	45min	2,5L	
	Risottos		2	22min	1,5Kg	
Salteados, Salsas (Ajustes: ver libro de recetas)						
Batidora  	Claras a punto de nieve		7	5/10min	max	
	Mayonesas, Nata batida		7	2/5min	0,5L	
	Salsas, cremas	De 4 a 7		1/20min	1L	
	Puré de patatas	De 6 a 7		1min	1L	
	Poletina	De 4 a 5		1/16min	1L	
Cuchilla para amasar/triturar  	Amasar las masas de pan blanco		5	2min 30s	1,2Kg	
	Amasar las masas quebradas, pastaflor, panes especiales		5	2min 30s	1Kg	
	Amasar las masas de levadura (bollos)		+	1min 30s 2min	0,8Kg	
	Mezclar las masas ligeras (bizcocho).		+	40s 3min	1Kg	
	Pulverizar las frutas con cáscara			1min	0,6Kg	
	Picar los productos duros			1min	0,6Kg	
	Picar hielo			1min	6 a 10	
	Masa de crepes, gofres			1min	1,5L	
Cesta para cocción al vapor  	Cocciones al vapor de legumbres, pescados o carnes			20/40min	1Kg	
	Sopas con tropezones ó trozos			40/45min	2,5L	
Tapón  	Tapón de regulación de extracción de vapor					
	- Máx. vapor (a) = cocción al vapor. - Mín. vapor (b) = risotto, natillas, salsas, etc.					a  max! b  min!

Estos accesorios están igualmente provistos de zonas para asirlos y así facilitar su manipulación durante su uso.

## SU APARATO CUENTA CON 2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

### • Modo de programa automático:

La velocidad, la temperatura de cocción y el tiempo se programan previamente para hacer salsas, sopas, estofados, platos al vapor, masas y postres en modo automático.

### • Modo manual:

Ajustes personalizados de los parámetros de velocidad, temperatura de cocción y tiempo para usar el aparato según deseé.

## LA TAPA DE SU APARATO ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA DE CIERRE DE SEGURIDAD

El cierre de la tapa se quedará asegurado cada vez que ponga en marcha el aparato. Este sistema de seguridad impide la apertura de la tapa cuando se está procesando una receta (**img. 16**).

### No intente forzar la tapa cuando está cerrada.

Este sistema de seguridad se desbloqueará una vez que el aparato se detenga.

Si selecciona una temperatura igual o superior a 50 °C y una velocidad igual o superior a 5, se mostrará una cuenta atrás de 10 segundos en la pantalla LCD del panel de control (**img. 7**).

La tapa no se podrá abrir hasta que finalice la cuenta atrás.

## COLOCACIÓN DEL BOL, SUS ACCESORIOS Y EL CONJUNTO DE LA TAPA

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, lave con agua caliente jabonosa todos los elementos (**D, E, F, G**), salvo el bloque motor (**A**). Su bol (**D**) está equipado con un accionador desmontable (**D3**) para facilitar su limpieza.
- Asegúrese de retirar todo el embalaje antes de usar el aparato, especialmente la protección situada entre el bol (**D**) y el bloque motor (**A**).
- Coloque la junta de estanqueidad (**E4**) sobre su soporte (**E3**) (**consulte la Fig. 1**) y bloquee el conjunto sobre la tapa (**E2**) (**consulte la Fig. 2**).
- Coloque la junta de estanqueidad (**D4**) sobre el accionador común (**D3**). Bloquee el conjunto sobre el fondo del bol con el anillo de bloqueo (**D5**) (**consulte la Fig. 3**).
- Coloque el accesorio elegido en el bol:
  - los accesorios (**F1, F2, F3 o F4**) sobre el accionador común en el fondo del bol (**consulte la Fig. 4.1**),

- la cesta para vapor en el interior del bol (**F5**), (**consulte la Fig. 4.3**), habiendo llenado previamente el recipiente con 0,7 l de preparado líquido (agua, salsa). (**consulte la Fig. 4.2**).

- Incorpore los ingredientes al interior del bol o de la cesta para cocción al vapor.
- Coloque la tapa sobre el bol (**D**) alineando los dos triángulos (**consulte la Fig. 5**), bloquee la tapa sin presionar y girándola en el sentido de la flecha (**consulte la Fig. 6**).
- Coloque el tapón regulador de vapor (**E1**) sobre la tapa, hay 2 posiciones posibles: máx. vapor (**a**) o mín. vapor (**b**).

 La posición «mín. vapor» permite dejar escapar un máximo de condensación y así obtener platos o salsas con una mayor consistencia (risotto, natillas, salsas, etc.).

 La posición «máx. vapor» permite obtener un máximo de calor y vapor en el recipiente para todas las cocciones al vapor (sopas, etc.).

**Esta posición** también evita salpicaduras durante la mezcla.

- Coloque el bol (**D**) sobre el bloque del motor (**A**) hasta oír un «clic» (**consulte la Fig. 8**).
- El aparato arranca únicamente si el bol y la tapa están correctamente colocados y bloqueados sobre el bloque motor.

**En caso de que uno de ellos esté colocado o bloqueado incorrectamente (**consulte la Fig. 10.1 y la Fig. 10.2**), el logo  empieza a parpadear cuando se activa una función.**

ES

## USO DEL CUADRO DE MANDOS (B)

### Selección de un programa automático:



Salsas



Sopas  
(en el programa **P1** crema / **P2** puré)



Cocción lenta  
(en el programa **P1** estofado de legumbres / **P2** estofado / **P3** risotto)



Cocción al vapor  
(en el programa **P1** vapor suave / **P2** vapor intenso)



Masas  
(en el programa **P1** pan / **P2** bollos / **P3** bizcochos)



Postres

ES



Selección de la velocidad del motor.  
2 velocidades intermitentes y 10 velocidades continuas progresivas.



Selección de la temperatura de cocción.  
De 30 °C a 130 °C.

Testigo luminoso de calentamiento:  
Se enciende al iniciarse la cocción y se apaga cuando la temperatura en el interior del bol baja a menos de 50 °C.



Selección del tiempo del funcionamiento.  
De 5 segundos a 2 horas.



Selección de las funciones «turbo» (velocidad máxima en acceso directo) y «pulse» (funcionamiento intermitente) sin recurrir a otros ajustes.



Aumento de la velocidad, de la temperatura de cocción y del tiempo.

Disminución de la velocidad, de la temperatura de cocción y del tiempo.



Este botón tiene 3 funciones:

- «**Validación**» de la selección de su programa automático o de sus parámetros elegidos en uso manual (velocidad, temperatura de cocción, tiempo).

- «**Pausa**» durante el uso, una vez que el aparato está funcionando.

- «**Reinicialización**» de los parámetros seleccionados del aparato presionando durante 2 segundos.

### Consejos de uso:

Su aparato está equipado con un microprocesador que controla y analiza su estabilidad. En caso de inestabilidad, la velocidad de rotación del motor se reducirá automáticamente. Si esta inestabilidad persiste, el motor se detendrá y aparecerá la palabra «STOP» en la pantalla.

- Compruebe que la cantidad de ingredientes no sea excesiva y que la velocidad esté adaptada.
- Compruebe que está utilizando el accesorio recomendado.
- A continuación, reinicie el aparato de la forma habitual

## USO DEL APARATO

Enchufe el aparato, gire el interruptor (**H**) a la posición 1, la pantalla LCD (**C**) muestra todos los parámetros en «0» (consulte la Fig. 9)

### MODO DE PROGRAMA AUTOMÁTICO



1- Pulse el programa que desee (**B1**), en la pantalla aparecerá un triángulo (**C4**) debajo del programa seleccionado. En el caso de los programas de sopas, estofados y masas, si sigue pulsando podrá ver los diferentes subprogramas.


2- Los parámetros preprogramados pueden modificarse mientras se elabora una receta (en función de la receta elegida, los ingredientes y las cantidades preparadas). Pulse el selector de velocidad (**B2**), el selector de temperatura de cocción (**B3**) o el selector de tiempo (**B4**), el parámetro elegido parpadea en la pantalla (**C1-C2-C3**).

3- Ajuste el (los) parámetro(s) con el selector +/- (**B6**).



4- Cuando haya terminado de modificar todos sus parámetros, pulse el botón «start» (**B7**) para iniciar el programa. Cuando su aparato utiliza el modo de cocción, el testigo luminoso rojo (**B3**) se enciende para informarle de que la cocción se ha iniciado.

5- Cuando el programa termina, el aparato emite 3 pitidos.



6- Al final de los programas de salsa, sopa, Cocción lenta P2 y P3, cocción al vapor y postres, el aparato pasa automáticamente al modo de mantenimiento del calor durante 45 minutos para conservar el plato listo para su consumo. En el programa de salsas, cocción a fuego lento P2 y P3, postre y en modo manual, el motor del aparato funciona a una velocidad específica, a fin de conservar el preparado y evitar que se pegue al fondo del bol. Para detener el mantenimiento del calor, basta con pulsar el botón «stop» (**B7**). Si abre la tapa, pulse los gatillos (**D2**) o retire el bol, el mantenimiento del calor se detendrá automáticamente.

ES  
Cuando terminan los programas de salsas, cocido a fuego lento P2 y P3 y natillas, mientras se conserva en caliente, el motor continua girando para evitar que la preparación se pegue en el fondo del recipiente.

Al final del amasado de los programas de masa P1 y P2, el aparato pasa al modo «subida de la masa» a 30 °C durante 40 minutos para dar un mejor volumen a sus masas. Si abre la tapa, pulse los gatillos (**D2**) o retire el bol, el aparato pasa al modo de pausa, tiene la posibilidad de reiniciarlo pulsando de nuevo «start».

Si desea detener este modo, pulse durante 2 segundos el botón «stop».

7- Pulse los gatillos (**D2**) y después levante el conjunto del bol (**D**) (consulte la Fig. 12).

Cuando se inicia el programa automático, tiene la posibilidad de detener el aparato en cualquier momento pulsando el botón «stop». El programa automático está entonces en modo de pausa, tiene la posibilidad de reiniciarlo pulsando de nuevo «start». Si se equivoca de programa y quiere anularlo, pulse durante 2 segundos el botón «stop».

## DESCUBRA LOS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS QUE SE PROPONEN:

	Salsa	Sopa P1	Sopa P2	Cocción lenta P1	Cocción lenta P2	Cocción lenta P3	
Programas automáticos	 slow	 soup	 slow cook	 slow cook	 slow cook	 slow cook	
Accesorios	 F10 F20 F30	 F10	 F10 F20	 F10 F20	 F10 F20	 F10 F20	
Velocidad «por defecto» (ajustable)		V6 (V2 a V8)	10 pulsaciones y V12 durante 2 min.	De V7 a V10 durante 30s	V3	V1	V2
Temperatura «por defecto» (ajustable)		70°C (de 50 °C a 100 °C)	100°C (de 90 °C a 100 °C)	100°C (de 90 °C a 100 °C)	130°C (no ajustable)	95°C (de 80 °C a 100 °C)	95°C (de 80 °C a 100 °C)
Tiempo «por defecto» (ajustable)		8 min (de 5 min a 40 min)	40 min (de 20 min a 60 min)	45 min (de 20 min a 60 min)	5 min (de 2 min a 15 min)	45 min (de 10 min a 2 h)	20 min (de 10 min a 2 h)
Conservación en caliente «por defecto» al finalizar el programa		45 min	45 min	45 min		45 min	45 min
Velocidad del motor durante la conservación en caliente		V4				5 s ON en V3 / 20 s OFF	10 s ON en V3 / 10 s OFF

	Cocción al vapor P1	Cocción al vapor P2	Masa P1	Masa P2	Masa P3	Postre	
Programas automáticos	 steam	 steam	 pastry	 pastry	 pastry	 dessert	
Accesorios		 F5		 F4		 F10 F20 F30	
Velocidad «por defecto» (ajustable)				V5 durante 2 min 30s	V5 durante 1 min 30s y luego V6 durante 2 min	V3 durante 40s y luego V9 durante 3 min	V4 (de V2 a V8)
Temperatura «por defecto» (ajustable)		100 °C (no ajustable)	100 °C (no ajustable)				90 °C (de 50 °C a 110 °C)
Tiempo «por defecto» (ajustable)		30 min (de 1 min a 60 min)	35 min (de 1 min a 60 min)	2 min 30 s (de 30 s a 2 min 30 s)	3 min 30 s (de 30 s a 3 min 30 s)	3 min 40 s (de 1 min 40 s a 3 min 40 s)	15 min (de 5 min a 60 min)
Conservación en caliente «por defecto» al finalizar el programa		45 min	45 min				45 min
Velocidad del motor durante la conservación en caliente				40 min	40 min		V4

## USO DE LA CESTA PARA COCCIÓN AL VAPOR

Los tiempos de cocción se facilitan a título indicativo. En la mayoría de los casos, siguiendo estos tiempos la cocción será satisfactoria.

Sin embargo, algunas condiciones van a influir en el tiempo de cocción:

- El tamaño de las verduras (troceadas o no troceadas)
- La cantidad de ingredientes en la cesta
- La variedad de verduras, su grado de maduración
- La cantidad de agua en el bol, que debe corresponder a la graduación (0,7L).

También puede utilizar el modo manual seleccionando la temperatura de 130° C y el tiempo de cocción según la cantidad y el tipo de ingredientes: véase la tabla siguiente.

Tiempo de cocción al vapor			
Ingredientes	Cantidades (máx.)	Tiempo de cocción estimado	Programa de vapor recomendado
Calabacines	800 g	20 min	P1
Chirivía	800 g	25 min	P1
Partes blancas de puerro	800 g	25 min	P1
Brócoli	500 g	20 min	P1
Pescados	600 g (con papel de horno)	15 min	P1
Patatas	1 kg	30 min	P2
Zanahorias	1 kg	30 min	P2
Judías verdes	800 g	30 min	P2
Carne blanca	600 g (con papel de horno)	20 min	P2

Durante la elaboración de algunas recetas pueden producirse desbordamientos por la aparición de burbujas, especialmente cuando se utilizan verduras congeladas. En ese caso, deberá reducir los volúmenes en consecuencia.

Recuerde utilizar correctamente el tapón de vapor en el sentido posición «máx. vapor» (a) hacia usted.

Si la cocción es insuficiente, puede añadir un tiempo de cocción adicional.

ES

## MODO MANUAL



de tiempo (B4), el parámetro elegido parpadea en la pantalla (C1-C2-C3).



2 - A continuación, ajuste el (los) parámetro(s) con el selector +/- (B6). Por motivos de seguridad, no es posible ajustar una temperatura sin ajustar un tiempo de cocción.



3 - Cuando haya terminado de ajustar todos sus parámetros, pulse el botón «start» (B7). Cuando su aparato utiliza el modo de cocción, el testigo luminoso rojo (B3) se enciende para informarle de que la cocción se ha iniciado. Cuando se inicia la programación, tiene la posibilidad de detener el aparato en cualquier momento pulsando el botón «stop».

La programación está entonces en modo pausa, tiene la posibilidad de reiniciarla pulsando de nuevo «start». Si se equivoca de programación

y quiere anularla, pulse durante 2 segundos el botón «stop».

4- Cuando la programación termina, el aparato emite 3 pitidos.

5- Pulse los gatillos (D2) y después levante el conjunto del bol (D) (consulte la Fig. 12).

### Funciones Turbo/Pulse

1- Acceda directamente desde su cuadro de mandos (B) a las funciones «turbo» y «pulse» (B5). Para utilizar el modo «turbo» (velocidad máxima en acceso directo), basta con mantener presionado el selector «turbo». La pantalla LCD muestra entonces el tiempo de uso (C3) para ayudarle. Para utilizar el modo «pulse» (funcionamiento intermitente), active y desactive el funcionamiento simplemente presionando el selector «pulse». La pantalla LCD también le ayuda indicando el tiempo de uso. Cuando se inicia el funcionamiento, tiene la posibilidad de detener el aparato en cualquier momento pulsando el botón «stop». El funcionamiento está entonces en modo pausa, tiene la posibilidad de reiniciarlo pulsando de nuevo «start».

## SEGURIDAD DEL APARATO ("SECU")



Su aparato viene equipado de serie con protecciones electrónicas del motor para garantizar su longevidad. Esta seguridad electrónica está garantizada contra cualquier utilización anormal; así su motor está perfectamente protegido.

En condiciones de uso intensivas, o al hacer recetas personales (internet y otros), en las que no se respeten las recomendaciones del manual (véase el apartado de «PUESTA EN SERVICIO»: cantidades demasiado grandes, un funcionamiento demasiado prolongado, y/o demasiadas recetas preparadas consecutivamente), la protección electrónica se puede activar con el fin de

preservar el motor. En dichos casos, el aparato se detendrá y «SECU» se mostrará en la pantalla LCD del panel de mandos para indicar que el aparato ha dejado de funcionar momentáneamente.

Si aparece el mensaje «SECU» en el panel de mando y el aparato se detiene, proceda de la siguiente manera:

- Deje conectado el aparato, no active el interruptor "0/1".
- Consulte las recomendaciones de la nota para volver a adaptar su preparación (véase el apartado «PUESTA EN SERVICIO»: cantidades de ingredientes/tiempo de la receta / temperatura / tipo de accesorios).
- Espere media hora para que el motor se enfrie.
- Vuelva a iniciar el aparato pulsando 2 segundos

el botón "Start /Stop/Reset" (referencia B7 de la nota).

Su aparato es totalmente apto para volver a ser utilizado.

El servicio al consumidor queda a su disposición para cualquier pregunta (see details in the guarantee booklet).

## LIMPIEZA DEL APARATO

- No sumerja el aparato. No pase el bloque motor (**A**) por debajo del agua corriente.

Una vez termine de usar el aparato, desenchúfelo.

- Limpie inmediatamente su bol después de usarlo.
- Pulse los gatillos (**D2**) y después levante el conjunto del bol (**D**).
- Coloque el bol sobre una superficie plana.
- Desbloquee la tapa girándola un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj. Retire la tapa con precaución.
- Los elementos de la tapa (junta de estanqueidad, soporte de la junta y tapa) son desmontables. Cuando las piezas se enfrien, desconecte la junta de la tapa deslizando el extremo del mango de la cepillo de limpieza (**I**) entre los elementos y presionando ligeramente para separarlos (véase img. 15).
- Tenga cuidado con las hojas de la cuchilla picadora ultrablade (**F1**) y de la cuchilla para amasar/triturar (**F4**) a la hora de limpiarlas y a la hora de vaciar el bol, están sumamente afiladas.
- Una vez las piezas se hayan enfriado:
  - desmonte el accionador común (**D3**), la junta (**D4**), el anillo de bloqueo (**D5**) (consulte la Fig. 13).
  - limpie el bol (**D**), el accionador común (**D3**), la junta (**D4**), el anillo de bloqueo (**D5**), los accesorios (**F1**), (**F2**), (**F3**), (**F4**), (**F5**), el tapón regulador de vapor (**E1**), la tapa (**E2**), el soporte de la junta (**E3**), la junta de estanqueidad (**E4**), con una esponja y agua caliente jabonosa.

- Aclare estos elementos con agua corriente.
- En caso de restos incrustados o manchas en el bol, puede utilizar el lado rascador de una esponja que, si es necesario, puede ser empapada con vinagre blanco o productos de limpieza apropiados para el acero inoxidable.
- Si los elementos están muy sucios, déjelos en remojo varias horas en agua con líquido lavavajillas y, si es necesario, raspe con la espátula (**G**) o con el lado áspero de una esponja.
- Para limpiar el bloque motor (**A**) utilice un paño humedecido. Séquelo cuidadosamente.
- Para facilitarle la limpieza, tenga en cuenta que el bol, el conjunto de la tapa y los accesorios pueden lavarse en el lavavajillas, a excepción del accionador común (**D3 y D4**) y de su anillo de bloqueo (**D5**) (consulte la Fig. 14).
- Los accesorios, el accionador común móvil y los elementos de la tapa pueden tomar un ligero color con ciertos ingredientes como el curry, el zumo de zanahorias, etc.; esto no supone ningún peligro para su salud ni para el funcionamiento de su aparato. Para evitar esto, limpie los elementos rápidamente después de su uso.
- Antes de utilizar su conjunto del bol (**D**) asegúrese de que los contactos eléctricos de debajo del bol estén siempre limpios y secos.
- Para no causar el deterioro del accionador común, evite remojarlo en el agua durante largos periodos de tiempo.
- Para no causar deformaciones en el recipiente (**D**), procure seguir las instrucciones de uso de su lavavajillas: no aumente las dosis de sal ni de los productos especiales para lavavajillas.

## ¿QUÉ HACER SI SU APARATO NO FUNCIONA?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
No se cocina lo suficiente	<p>Los tiempos de cocción se proporcionan a título indicativo para hacer posible una cocción satisfactoria en la mayoría de los casos. No obstante, ciertas condiciones pueden influir en los tiempos de cocción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El tamaño de los alimentos (trocados o sin trocear).</li> <li>- La cantidad de ingredientes.</li> <li>- La variedad de verduras y su madurez.</li> <li>- Si los ingredientes están congelados o no, etc.</li> </ul>	<p>Aumente el tiempo de cocción con el selector de tiempo (B4). Corte la comida en trozos más pequeños.</p>
	Tapón regulador del vapor mal posicionado o desinstalado.	<p>Mueva el tapón regulador del vapor en el sentido de «máx. vapor» (hacia usted). Esta posición le permite calentar el bol al máximo para todo tipo de coccciones (sopas, cocción al vapor, etc.). Esta posición evita igualmente las salpicaduras al batir. La posición «min. vapor» permite escapar el máximo de condensación para obtener así platos o salsas con una mejor consistencia (risotto, natillas, salsas, etc.).</p>
Cocción al vapor insatisfactoria	Cantidad inapropiada de agua en el bol. Trozos demasiado gruesos.	<p>La cantidad de agua en el bol debe corresponder a la graduación (0,7 L). Se puede utilizar el modo manual para seleccionar la temperatura de 120 °C y el tiempo de cocción en función de la cantidad y el tipo de ingredientes. Corte la comida en trozos más pequeños.</p>
Dificultad para cocinar con éxito ciertas recetas	Recetas inadecuadas	<p>Sus recetas, ya sean personales u obtenidas por internet, puede que no sean adecuadas para el aparato y sus accesorios (cantidades, tiempos de cocción, duración, accesorios inapropiados): antes de empezar a cocinar su receta, procure cumplir con las instrucciones de uso del manual.</p>

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
El aparato no funciona.	El enchufe no está conectado. El interruptor ( <b>H</b> ) está en posición 0. El bol o la tapa no están correctamente colocados o bloqueados.	Enchufe el aparato a una toma. Gire el interruptor a la posición 1. Compruebe que el bol y la tapa están bien colocados y bloqueados de acuerdo con los esquemas de las instrucciones.
La tapa no se bloquea.	La tapa no está completa.	Compruebe que la junta está correctamente montada sobre su soporte y que este está correctamente montado sobre la tapa.
Exceso de vibración.	El aparato no está colocado sobre una superficie plana, el aparato no tiene estabilidad. Volumen de ingredientes excesivo. Accesorios erróneos.	Coloque el aparato sobre una superficie plana. Reduzca la cantidad de ingredientes tratados. Compruebe que está utilizando el accesorio recomendado.
Leve ruido cuando está en funcionamiento	El accionador de su aparato puede emitir un ruido cuando funciona a velocidad reducida o con determinados ingredientes (arroz, etc.).	Esto es un fenómeno pasajero que no tiene consecuencias sobre la vida útil de su aparato, que se atenuará o desaparecerá después de usar y limpiar varias veces el accionador común removible (consulte el apartado de «Limpieza y mantenimiento»).
Demasiado ruido durante su funcionamiento	Utilización del accesorio equivocado	Procure utilizar un accesorio apropiado (p. ej., no utilice el accesorio batidor [F3] para amasar o mezclar patés; utilice la cuchilla [F4]). Consulte para ello las recomendaciones de las recetas y las instrucciones de uso de este manual.
Fuga a través de la tapa.	Volumen de ingredientes excesivo. La tapa no está bien colocada o bloqueada. La junta de estanqueidad no está presente. La junta de estanqueidad está rota, deteriorada. Accesorios erróneos.	Reduzca la cantidad de ingredientes tratados. Bloquee correctamente la tapa sobre el bol. Coloque la junta de estanqueidad sobre su soporte y bloquee el conjunto sobre la tapa. Cambio la junta, póngase en contacto con un servicio autorizado. Compruebe que está utilizando el accesorio recomendado.
Fuga a través del accionador del bol.	La junta no se encuentra correctamente colocada. La junta está deteriorada. El anillo de bloqueo ( <b>D5</b> ) está mal bloqueado.	Coloque correctamente la junta. Póngase en contacto con un centro autorizado. Bloquee correctamente el anillo ( <b>D5</b> ).
Las cuchillas no giran con facilidad.	Trozos de alimentos demasiado grandes o demasiado duros.	Reduzca el tamaño o la cantidad de ingredientes tratados. Añada líquido.
Olor procedente del motor.	Cuando se utiliza por primera vez el aparato, o en caso de sobrecarga del motor provocada por una cantidad excesiva de ingredientes o trozos demasiado duros o demasiado grandes.	Deje enfriar el motor (unos 30 minutos) y reduzca la cantidad de ingredientes en el bol.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Indicador «STOP».	El aparato ha detectado un exceso de vibración y se ha puesto en modo de seguridad.	Compruebe que está utilizando la velocidad recomendada o el accesorio recomendado.
Indicador «SECU».	Sobrecarga del motor provocada por una cantidad excesiva de ingredientes o por trozos demasiado duros o demasiado grandes, o una sucesión de recetas sin un tiempo suficiente de refrigeración.	Deje enfriar el motor (unos 30 minutos) y reduzca la cantidad de ingredientes en el bol.
Indicador «SECU» + testigo lumínoso rojo parpadea.	Recalentamiento de los sensores de temperatura.	Póngase en contacto con un centro autorizado.
Indicador «Err1» + testigo lumínoso rojo parpadea.	La resistencia de calentamiento no funciona.	Compruebe que las clavijas de alimentación que se encuentran debajo del bol no estén sucias. Si lo están, límpielas y vuelva a intentarlo. Si esto no funciona, póngase en contacto con un centro autorizado.
Indicador «Err2».	Defecto electrónico.	Póngase en contacto con un centro autorizado.
Indicador «Err3».	Defecto de velocidad.	Póngase en contacto con un centro autorizado.
Indicador «Err4».	Fallo de comunicación con tarjeta electrónica chopper.	Póngase en contacto con un centro autorizado.
La pantalla muestra «Err8».	Fallo en el sensor del sistema de cierre de seguridad.	Contacto con un servicio técnico autorizado.
Indicador «ntc1» + testigo lumínoso rojo parpadea.	El sensor 1 de temperatura no funciona.	Póngase en contacto con un centro autorizado.
Indicador «ntc2» + testigo lumínoso rojo parpadea.	El sensor 2 de temperatura no funciona.	Póngase en contacto con un centro autorizado.
Testigo de seguridad encendido (C5) (6)	Instalación incorrecta del bol o la tapa.	Antes de poner en marcha el aparato, compruebe que el bol está bien instalado sobre el bloque de motor y que la tapa está bien colocada sobre el bol. Si el problema persiste, contacte con un servicio autorizado.
La seguridad del bloqueo de la tapa continúa activa (varilla que sobresale) y no permite bloquear la tapa.	Se ha apagado el aparato en la mitad de una receta poniendo el interruptor I/O en posición 0 o simplemente desenchufando el aparato en medio de la operación.	Basta cambiar la posición del interruptor I/O a I para volver a iniciar el robot, y por lo tanto, también la seguridad del bloqueo de la tapa. La varilla volverá automáticamente a su posición original y usted podrá cerrar y bloquear la tapa.

### ¿Su aparato sigue sin funcionar?

Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver lista en el folleto de servicio).

## RECICLAJE

### • Eliminación de los materiales de embalaje del aparato



El embalaje incluye exclusivamente materiales sin riesgo para el medio ambiente, que se pueden desechar de conformidad con las disposiciones de reciclaje vigentes.

Para desechar el aparato, infórmese en el servicio técnico autorizado de su comunidad.

### • Fin de la vida útil de un producto electrónico o eléctrico:

### ¡Colaboremos con la protección del medio ambiente!



① Su aparato contiene un gran número de materiales aprovechables o reciclables.

② No depositelo en un punto de recogida para que se lleve a cabo su tratamiento.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### Segurança do utilizador

- Leia atentamente o manual de instruções antes da primeira utilização do aparelho e guarde-o para futuras utilizações: uma utilização não conforme ao manual de instruções liberta o fabricante de qualquer responsabilidade.
- Desligue sempre o aparelho da corrente sempre que o deixar sem vigilância e antes de proceder à montagem, desmontagem ou limpeza. Não deixe as crianças utilizarem o aparelho sem vigilância.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais são reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, excepto se estas tiverem recebido instruções prévias relativamente à utilização do aparelho ou forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança. É conveniente vigiar as crianças para garantir que elas não brincam com o aparelho.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.



• Durante a utilização do aparelho, algumas peças atingem temperaturas elevadas (corpo em inox da taça, eixo comum amovível, peças transparentes da tampa e da tampa reguladora de vapor, peças metálicas debaixo da taça, cesto). Estas peças podem provocar queimaduras. Manuseie o aparelho pelas partes plásticas frias (pegas, bloco do motor). O indicador luminoso vermelho de aquecimento indica que existe risco de queimadura.

PT

- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada durante o funcionamento do aparelho.
- O aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento por meio de um regulador externo ou através de um sistema de comando à distância independente.
- Não utilize o aparelho se este não funcionar correctamente, estiver danificado ou se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados. Por forma a evitar qualquer tipo de perigo, o cabo deve ser obrigatoriamente substituído por um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consultar lista no folheto).
- Não deve imergir o aparelho em líquidos. Não coloque o bloco do motor (**A**) sob água corrente.
- Este aparelho destina-se

exclusivamente a um uso doméstico no interior de sua casa e a uma altitude inferior a 2000 m. O fabricante declina qualquer responsabilidade e reserva-se o direito de anular a garantia em caso de utilização comercial ou inadequada, ou de desrespeito pelas instruções.

- Este aparelho não se destina a ser utilizado em aplicações domésticas e similares (utilizações não abrangidas pela garantia), tais como:
  - zonas utilizadas como cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  - em cozinhas pequenas reservadas a funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes profissionais;
  - em quintas;
  - utilização por clientes de hotéis, motéis ou outros ambientes de caráter residencial;
  - em ambientes tipo quarto de hóspedes.



• **O aparelho libera vapor que pode provocar queimaduras. Manuseie com precaução a tampa e a tampa reguladora de vapor (se necessário, utilize uma luva, uma pega de cozinha, etc). Manuseie a tampa reguladora de vapor pela sua parte central.**

- **Não coloque o aparelho em funcionamento se a junta vedante não estiver posicionada sobre o suporte da junta, e se este não estiver montado na tampa. É imperativo colocar o aparelho em funcionamento com a tampa reguladora de vapor posicionada no orifício da tampa (salvo em caso de indicação específica na receita).**



- **AVISO: Atenção aos riscos de ferimentos no caso de utilização incorreta do aparelho.**

Tenha cuidado com as lâminas picadoras (F1) e as lâminas do acessório triturador (F4) quando as lava e quando esvazia a taça, dado que são extremamente afiadas.

Tome atenção se deitar um líquido quente na taça, pois este pode ser projetado do aparelho devido a uma ebullição repentina.

Coloque a lâmina picadora Ultrablade (F1) dentro da taça após cada utilização.

**AVISO: Deve utilizar o seu aparelho com precaução (limpeza, enchimento e esvaziamento): evite derramar líquidos sobre os conectores.**

**AVISO: O aparelho emite vapor que pode provocar queimaduras.**

**AVISO: A superfície do elemento de**

**aquecimento preserva algum calor residual após a utilização.**

**Certifique-se de que toca apenas nas pegas da taça (molas D2, pega da tampa E2 e da tampa reguladora de vapor E1) durante o aquecimento e até ao arrefecimento completo.**

Consulte as indicações de ajuste das velocidades e tempo de funcionamento de cada acessório e de cada programa nas Instruções de Utilização.

Consulte as indicações de montagem e a colocação dos acessórios no aparelho nas Instruções de Utilização.

Consulte as indicações de limpeza e manutenção do seu aparelho nas Instruções de Utilização.

Deve sempre seguir as instruções de limpeza para limpar o aparelho:

- Desligar o aparelho.
- Não limpar o aparelho se estiver quente.
- Limpar com um pano ou uma esponja húmida.
- Nunca colocar o aparelho dentro de água, nem passá-lo por água corrente.

#### **APENAS MERCADOS EUROPEUS:**

• Conservar o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos de idade.

Não permita que as crianças utilizem o aparelho como um brinquedo.

• Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência ou conhecimentos, desde que supervisionadas ou que tenham recebido instruções quanto à utilização do aparelho em total segurança e compreendam bem os potenciais perigos.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade, desde que sejam supervisionadas ou que tenham recebido instruções relativamente à utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. A limpeza e a manutenção do mesmo por parte do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem vigilância, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas por um adulto.

PT

#### **Ligação elétrica**

- O aparelho deve ser ligado a uma tomada elétrica com ligação de terra.
- Este aparelho foi concebido para funcionar apenas em corrente alterna. Verifique se a tensão elétrica indicada na placa sinalética do aparelho corresponde à da sua instalação elétrica.
- Os erros de ligação anulam a garantia.
- Nunca puxe pelo cabo de alimentação para desligar o aparelho.
- Não coloque o aparelho, o cabo de alimentação nem a ficha dentro de líquidos.

- Nunca deixe o cabo de alimentação nas imediações ou em contacto com as partes quentes do aparelho, próximo de uma fonte de calor ou sobre uma aresta afiada.

### Utilização incorreta

- **Não toque na tampa enquanto o aparelho não parar completamente (botão stop), aguarde até os alimentos triturados não rodarem mais.**
- Deite sempre os ingredientes sólidos em primeiro lugar na taça antes de adicionar os ingredientes líquidos, sem exceder a marca "2.5 L MAX" gravada no interior da taça (**ver Fig. 11**). Se a taça estiver demasiado cheia, a água a ferver pode ser projetada.
- Quando estiver a utilizar a cozedura a vapor, tenha o cuidado de respeitar o nível de 0,7 litro de água (**ver Fig. 4.2**).
- Nunca coloque os seus dedos ou qualquer outro objeto dentro da taça durante o funcionamento do aparelho.
- Não utilize a taça como recipiente de conservação, congelação ou esterilização.
- Coloque o aparelho em cima de uma bancada de trabalho estável, resistente ao calor, limpa e seca.
- Não coloque o aparelho junto de uma parede ou armário: o vapor produzido pode danificar os materiais.
- Não coloque o aparelho próximo

de uma fonte de calor em funcionamento (placa de cozinha, eletrodoméstico, etc.).

- Não tape a tampa com um pano ou de outra forma, não tape o orifício da tampa, utilize a tampa reguladora de vapor.
- Não deixe o cabelo, lenços, gravatas, etc. pendurados por cima da taça durante a utilização do aparelho.
- Não coloque os acessórios num micro-ondas.
- Não utilize o aparelho ao ar livre.
- Nunca exceda a quantidade máxima indicada no folheto.
- Guarde o aparelho apenas após ter arrefecido.
- Não coloque o recipiente no congelador para o arrefecer. Utilize o frigorífico.

### SPV

- Para sua segurança, não utilize outros acessórios ou peças de substituição para além dos fornecidos pelos Serviços de Assistência Técnica autorizados.
- Qualquer intervenção para além da limpeza e manutenção habituais realizadas pelo cliente deve ser efetuada por um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
- Consulte a tabela "O que fazer se o aparelho não funcionar?" na última página do folheto de instruções.

Agradecemos a sua preferência por este aparelho, que foi criado exclusivamente para a preparação de alimentos para uso doméstico, dentro de casa.



Ao ler este folheto, encontrará conselhos de utilização que o(a) farão antever o potencial do seu aparelho: preparação de molhos, sopas, cozedura lenta, cozedura a vapor, massas e sobremesas.

## DESCRÍÇÃO DO APARELHO

**A Bloco do motor**

**B Painel de comandos**

- B1** : botões de seleção de programas automáticos
- B2** : seletor de velocidade
- B3** : seletor de temperatura de cozedura e/ou indicador luminoso de aquecimento
- B4** : seletor do tempo de funcionamento
- B5** : seletor turbo/impulso
- B6** : seletor +/-
- B7** : botão start/stop/reset

**C Ecrã LCD**

- C1** : indicação da velocidade
- C2** : indicação da temperatura
- C3** : indicação do tempo
- C4** : indicação da seleção de programa
- C5** : Indicação de bloqueio de segurança

**D Conjunto da taça**

- D1** : taça inox
- D2** : molas
- D3** : eixo comum amovível
- D4** : junta vedante
- D5** : anel de bloqueio do eixo

**E Conjunto da tampa**

- E1** : tampa reguladora de vapor
- E2** : tampa
- E3** : suporte da junta vedante
- E4** : junta vedante

**F Acessórios**

- F0** : caixa de arrumação dos acessórios
- F1** : lâmina picadora "ultrablade"
- F2** : acessório misturador
- F3** : acessório batedor
- F4** : lâmina para amassar / triturar
- F5** : cesto de cozedura a vapor

**G Espátula**

- H Interruptor 0/1 para desligar o aparelho**
- I Escova de limpeza**

## DADOS TÉCNICOS DO APARELHO:

**Potência:** 1550 W (1000 W: resistência de aquecimento / 550W: motor)

**Intervalo de temperatura:** de 30° a 130°C  
regulável em incrementos de 5°C.

**Intervalo de tempo de funcionamento:** de 5s a 2 horas, regulável em intervalos de 5s no mínimo a 1 minuto no máximo.

**Número de velocidades: 12**  
- 2 velocidades intermitentes:  
velocidade 1 (5s Ligado / 20s Desligado).  
velocidade 2 (10s Ligado / 10s Desligado).  
- 10 velocidades contínuas progressivas  
(velocidades 3 a 12).

PT

## COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

O aparelho está equipado com um interruptor 0/1, coloque o interruptor no 1 (ver Fig. 9). Juntamente com o aparelho, dispõe dos seguintes acessórios :

Lâmina picadora  	Triturar sopas		3min	2,5L	-->100°c	
	Triturar compotas		40s	1Kg	-->100°c	
	Picar legumes		15s	1Kg	-->100°c	
	Picar carne		30s	1Kg	-->100°c	
	Picar peixe		15s	1Kg	-->100°c	
<b>!!</b> Não utilize este acessório para cortar produtos duros, utilize a lâmina picadora/tritadora F4.						
Acessório misturador  	Mistura os pratos cozinhados sem desfazer os ingredientes. Muito útil para as fases de refogado das preparações (risottos, sopas).					
	Refogados		5	5min	500g	130°c
	Cozedura lenta		1	45min	2,5L	95°c
	Risottos		2	22min	1,5Kg	95°c
Guisado de legumes (Ratatouille), Chutneys, Leguminosas (Configurações: ver livro de receitas)						
Acessório batedor  	Claras em castelo		7	5/10min	7 max	
	Maionese, chantilly		7	2/5min	0,5L	
	Molhos, cremes		4 à 7	1/20min	1L	60>90°c
	Puré de batata		6 à 7	1min	1L	
	Polenta		4 à 5	1/16min	1L	90°c
Lâmina para amassar/triturar  	Amassar massas de pão branco		5	2min 30s	1,2Kg	
	Amassar massas quebradas, areadas, pão especial		5	2min 30s	1Kg	
	Amassar massas levedadas (brioche, kouglof)		+ 5	1min 30s 2min	0,8Kg	
	Misturar massas leves (bolo)		+ 5	40s 3min	1Kg	
	Triturar frutos com casca		10	1min	0,6Kg	
	Picar alimentos ríjos		10	1min	0,6Kg	
	Picar gelo		10	1min	6 a 10	
	Massa de crepes, waffles		10	1min	1,5L	
Cesto de cozedura a vapor  	Cozedura a vapor de legumes, peixes ou carnes			20/40min	1Kg	100°c
	Sopas com pedaços			40/45min	2,5L	100°c
Tampa doseadora  	Tampa doseadora de regulação da extração de vapor  - Vapor máx. (a) = cozedura a vapor. - Vapor mín. (b) = Risotto, cremes de sobremesa, molhos...				a b	

Estes acessório foram concebidos com zona de preensão para facilitar a sua manipulação durante a utilização

## O APARELHO DISPÕE DE 2 MODOS DE FUNCIONAMENTO:

- **Modo de programa automático:**

A velocidade, a temperatura e o tempo de cozedura são pré-programados para preparar molhos, sopas, alimentos cozidos lentamente, alimentos cozidos a vapor, massas e sobremesas no modo automático.

- **Modo manual:**

Regulação personalizada dos parâmetros de velocidade, temperatura de cozedura e duração para uma utilização de acordo com a sua conveniência.

## O SEU APARELHO VEM EQUIPADO COM UM BLOQUEIO DE SEGURANÇA DA TAMPA

A tampa é protegida cada vez que liga o aparelho. Esta proteção impede a abertura da tampa durante a realização de uma receita (**Imagen 16**).

### **Não tente forçar a tampa quando ela estiver bloqueada.**

Esta proteção é desbloqueada quando o aparelho for desligado.

Se tiver selecionado uma temperatura igual ou superior a 50 °C e a uma velocidade igual ou superior a 5, aparece então uma contagem decrescente de 10 segundos no ecrã LCD no painel de instrumentos. (**Imagen 17**).

A abertura da tampa só pode ser efetuada no final da contagem decrescente.

## COLOCAÇÃO DA TAÇA, DOS ACESSÓRIOS E DO CONJUNTO DA TAMPA

- Antes da primeira utilização, limpe todos os acessórios (**D, E, F, G**) com água quente e detergente para a loiça, à exceção do bloco do motor (**A**). A sua taça (**D**) está equipada com um eixo desmontável (**D3**) para facilitar a limpeza.
- Certifique-se de que retirou completamente todo o material de embalagem antes da utilização, nomeadamente a proteção situada entre a cuba (**D**) e o bloco do motor (**A**).

- Coloque a junta vedante (**E4**) sobre o suporte da junta (**E3**) (ver Fig. 1), encaixe o conjunto por cima da tampa (**E2**) (ver Fig 2).

- Encaixe a junta vedante (**D4**) no eixo comum (**D3**). Fixe o conjunto na parte de baixo da taça utilizando o anel de bloqueio (**D5**) (ver Fig. 3).

- Posicione o acessório escolhido na taça:

- os acessórios (**F1, F2, F3, ou F4**) por cima do eixo comum situado no fundo da taça (ver Fig. 4.1)

- o cesto de cozedura a vapor no interior da taça (**F5**), (ver Fig. 4.3), tendo o cuidado de encher antecipadamente a taça com 0,7 l de preparação líquida (água, molho.) (ver Fig. 4.2).

- Coloque os ingredientes no interior da taça ou do cesto de cozedura a vapor.

- Posicione a tampa por cima da taça (**D**) alinhando os dois triângulos (ver Fig. 5), bloquie a tampa sem carregar, rodando-a no sentido da seta (ver Fig. 6).

- Posicione a tampa reguladora de vapor (**E1**) sobre a tampa, sendo possível 2 posições: vapor máx. (**a**) ou vapor mín. (**b**).

 A posição «vapor mín.» permite deixar sair um máximo de condensação e obter assim pratos ou molhos com uma melhor consistência (Risotto, cremes de sobremesa, molhos, etc.).

 A posição «vapor máx.» permite alcançar o máximo calor e vapor na taça para todas as cozeduras a vapor (sopas, etc.).

Esta posição evita igualmente salpicos durante a Trituração.

- Posicione a taça (**D**) por cima do bloco do motor (**A**) até ouvir um "clic" (ver Fig. 8).
- O aparelho só começa a funcionar quando a taça e a tampa estão corretamente posicionadas e bloqueadas por cima do bloco do motor.

**Em caso de posicionamento ou bloqueio incorreto de uma ou de outra (ver Fig. 10.1 e 10.2), o logótipo  meça a piscar assim que se ativa uma função.**

## UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE COMANDO (B)

Seleção de um programa automático:



Molhos



Cozedura a vapor  
(no programa **P1** vapor suave / **P2** vapor intenso)



Sopas  
(no programa **P1** aveludado / **P2** triturado)



Massas  
(no programa **P1** pão / **P2** brioche / **P3** bolo)



Alimentos cozidos lentamente  
(no programa **P1** estufado de legumes / **P2** cozedura lenta / **P3** risotto)



Sobremesas

PT

Seleção de parâmetros personalizados:



Seleção da velocidade do motor.  
2 velocidades intermitentes e 10 velocidades contínuas progressivas.



Aumento da velocidade, da temperatura e do tempo de cozedura.

Diminuição da velocidade, da temperatura e do tempo de cozedura.



Seleção da temperatura de cozedura.  
De 30° a 130° C.



Este botão dispõe de 3 funções:

- “Validação” da escolha do seu programa automático ou dos parâmetros escolhidos no âmbito de uma utilização manual (velocidade, temperatura de cozedura, tempo).

- “Pausa” no decorrer de uma utilização, depois do aparelho começar a funcionar.

- “Reinício” dos parâmetros selecionados do aparelho através de uma pressão de 2 segundos.



Seleção do tempo de funcionamento.  
De 5s a 2 horas.



Seleção das funções **turbo** (velocidade máxima em acesso direto) e **impulso** (funcionamento intermitente) sem recorrer a outras regulações.

### Conselho de utilização:

O seu aparelho está equipado com um micro-processador que controla e analisa a sua estabilidade. Em caso de instabilidade, a velocidade de rotação do motor será automaticamente reduzida. Se esta instabilidade persistir, o motor pára e aparece “STOP” no ecrã.

- Verifique se a quantidade de ingredientes não é excessiva e se a velocidade utilizada está adaptada em conformidade.
- Verifique se está a utilizar o acessório recomendado.
- Em seguida, reinicie normalmente o aparelho.

## UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Ligue o aparelho à corrente, coloque o interruptor (**H**) no 1, o ecrã LCD (**C**) exibe todos os parâmetros a "0" (ver Fig. 9)

### MODO DE PROGRAMA AUTOMÁTICO



1- Prima o programa da sua escolha (**B1**); no ecrã aparece um triângulo (**C4**) por baixo do programa selecionado. No caso dos programas de sopas, alimentos cozidos lentamente ou massas, a pressão sucessiva dos botões permite fazer desfilar os diferentes sub-programas.



2- Os parâmetros pré-programados podem ser modificados para uma receita (consoante a receita escolhida, os ingredientes, as quantidades preparadas). Prima o seletor de velocidade (**B2**) ou o seletor de temperatura de cozedura (**B3**) ou o seletor de tempo (**B4**), o parâmetro escolhido pisca no ecrã (**C1-C2-C3**).



3- Regule o(s) parâmetro(s) com a ajuda do seletor +/- (**B6**).



4- Quando tiver terminado de modificar todos os parâmetros, prima o botão "start" (**B7**) para iniciar o programa. Quando o aparelho está em modo de cozedura, o indicador luminoso vermelho (**B3**) acende para o informar que a cozedura teve início.

5- Quando o programa termina, o aparelho emite 3 bips.

6- No fim do programa **P2** para molhos, sopa, alimentos cozidos lentamente e **P3** para cozedura a vapor e creme de sobremesa, o aparelho passa automaticamente para a função "manter quente", durante 45 minutos. No

programa para molhos, cozedura lenta P2 e P3, sobremesas e no modo manual, o motor do aparelho funciona a uma velocidade específica, com o objetivo de preservar a preparação e evitar que haja adesão ao fundo da taça. Para parar a função "manter quente", basta premir o botão "stop" (**B7**). Se abrir a tampa, premir os gatilhos (**D2**) ou retirar a cuba, a função "manter quente" pára automaticamente.

O motor continua a funcionar durante a função de «manutenção a quente» para evitar que a preparação fique colada no fundo da taça no final dos programas molho, cozedura lenta P2 e P3 e cremes de sobremesa.

No fim dos programas de massa **P1** e **P2**, o aparelho passa para o modo de "levedura da massa" a 30°C, durante 40 minutos, para levedar as suas massas. Se abrir a tampa, premir os gatilhos (**D2**) ou retirar a taça, o aparelho passa para o modo de poupança de energia, e tem a possibilidade de o voltar a ligar premindo novamente em "start".

Se pretender parar este modo, prima durante 2 segundos o botão "stop".

7- Prima os gatilhos (**D2**) e retire o conjunto da taça (**D**) (ver Fig. 12).

Assim que o programa automático tem início, tem a possibilidade de parar o aparelho, em qualquer momento, premindo o botão "stop". O programa automático está agora no modo de poupança de energia e tem a possibilidade de o voltar a ligar premindo novamente em "start". Se se enganou no programa e pretende anular, prima durante 2 segundos no botão "stop".

PT

## DESCUBRA OS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS PROPOSTOS:

	Molho	Sopa P1	Sopa P2	Cozedura lenta P1	Cozedura lenta P2	Cozedura lenta P3	
Programas automáticos							
Acessórios							
Velocidade «por defeito» (ajustável)		V6 (V2 a V8)	10 impulsos e V12 durante 2 minutos	V7 a V10 durante 30 segundos	V3	V1	V2
Temperatura «por defeito» (ajustável)		70°C (50°C a 100°C)	100°C (90°C a 100°C)	100°C (90°C a 100°C)	130°C (não ajustável)	95°C (80°C a 100°C)	95°C (80°C a 100°C)
Tempo «por defeito» (ajustável)		8 min (5 min a 40 min)	40 min (20 min a 60 min)	45 min (20 min a 60 min)	5 min (2 min a 15 min)	45 min (10 min a 2 h)	20 min (10 min a 2 h)
Manutenção a quente «por defeito» no fim do programa		45 min	45 min	45 min		45 min	45 min
Velocidade do motor durante a fase da manutenção a quente		V4				5s ON na V3 / 20s OFF	10s ON na V3 / 10s OFF

	Cozedura a vapor P1	Cozedura a vapor P2	Massa P1	Massa P2	Massa P3	Sobremesa	
Programas automáticos							
Acessórios							
Velocidade «por defeito» (ajustável)			V5 durante 2,30 minutos	V5 durante 1,30 minutos e V6 durante 2 minutos	V3 durante 40 segundos e V9 durante 3 minutos	V4 V2 a V8	
Temperatura «por defeito» (ajustável)		100°C (não ajustável)	100°C (não ajustável)			90 °C (50 °C a 110 °C)	
Tempo «por defeito» (ajustável)		30 min (1 min a 60 min)	35 min (1 min a 60 min)	2 min 30 s (30 s a 2 min 30 s)	durante 2 min 3 min 30 s (30 s a 3 min 30 s)	3 min 40 s (1 min 40 s a 3 min 40 s)	15 min (5 min a 60 min)
Manutenção a quente «por defeito» no fim do programa		45 min	45 min				45 min
Velocidade do motor durante a fase da manutenção a quente				40 min	40 min		V4

## UTILIZAÇÃO DO CESTO DE COZEDURA A VAPOR

Os tempos de cozedura são fornecidos a título indicativo, permitindo, na maior parte dos casos, uma cozedura satisfatória.

No entanto, determinadas condições irão influenciar o tempo de cozedura:

- o tamanho dos legumes (cortados ou inteiros)
- a quantidade de ingredientes no cesto
- a variedade de legumes, a sua maturidade
- a quantidade de água na taça, que deve corresponder à graduação (0.7L).

Utilizar a tampa reguladora de vapor com «vapor máx.» (a) virado para si.

Se a cozedura for insuficiente, pode acrescentar um tempo de cozedura suplementar.

Pode também utilizar o modo manual, selecionando a temperatura de 130°C e o tempo de cozedura de acordo com a quantidade e o tipo de ingredientes: ver tabela abaixo.

Ingredientes	Tempo de cozedura a vapor		
	Quantidades (máx)	Tempo de cozedura estimado	Programa de vapor recomendado
Curgetes	800 g	20 min	P1
Chirivia	800 g	25 min	P1
Alho francês (parte branca)	800 g	25 min	P1
Brócolos	500 g	20 min	P1
Peixes	600 g (com papel de cozedura)	15 min	P1
Batatas	1 kg	30 min	P2
Cenouras	1 kg	30 min	P2
Feijão-verde	800 g	30 min	P2
Carnes brancas	600 g (com papel de cozedura)	20 min	P2

Algumas receitas podem transbordar devido ao aparecimento de bolhas, particularmente quando da utilização de legumes congelados. Neste caso, deve reduzir os volumes em conformidade.

## MODO MANUAL



cozedura (**B3**) ou o seletor de tempo (**B4**); o parâmetro escolhido pisca no ecrã (**C1- C2-C3**).



cozedura.



3- Assim que tiver terminado de regular todos os parâmetros que pretende, prima o botão "start" (**B7**). Quando o aparelho está a utilizar o modo de cozedura, o indicador luminoso vermelho (**B3**) acende para o informar que a cozedura tem início. Assim que o programa tem início, tem a possibilidade de parar o aparelho em qualquer momento premindo o botão "stop".

O programa está agora no modo de poupança

de energia, e tem a possibilidade de o reiniciar premindo novamente em "start". Se se enganou no programa e pretende anular, prima durante 2 segundos no botão "stop".

4- Assim que o programa termina, o aparelho emite 3 bips.

5- Prima os gatilhos (**D2**) e, em seguida, retire o conjunto da taça (**D**) (ver Fig. 12).

### Funções Turbo / Impulso

1- Aceda diretamente a partir do seu painel de comandos (**B**) às funções "turbo" e "impulso" (**B5**). Para uma utilização em modo turbo (velocidade máxima em acesso direto), basta manter o seletor "turbo" premido. O ecrã LCD exibe o tempo de utilização (**C3**) para ajudar o utilizador. Para uma utilização por impulsos (funcionamento intermitente), ative e pare a função através de uma simples pressão do seletor "impulso". Também aqui, o ecrã LCD ajuda o utilizador ao indicar o tempo de utilização. Assim que a função tem início, tem a possibilidade de parar o aparelho em qualquer momento premindo o botão "stop". A função está agora no modo de poupança de energia, e tem a possibilidade de a reiniciar premindo novamente em "start".

## INSTRUÇÕES SOBRE A SEGURANÇA DO APARELHO ("SECU")



O seu aparelho está equipado, de série, com proteções eletrónicas do motor por forma a garantir a sua longevidade. Esta segurança eletrónica

protege-o contra qualquer utilização anormal; desta forma, o seu motor fica totalmente protegido.

Em algumas condições de utilização muito severas, ou receitas pessoais (Internet e outras...), que não respeitem as recomendações do manual (consulte o parágrafo «COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO»: Quantidades eventualmente muito grandes e/ou uma utilização anormalmente prolongada e/ou um encadeamento de receitas umas muito em cima

das outras), a proteção eletrónica é ativada para preservar o motor. Neste caso, o aparelho pára e aparece uma mensagem «SECU» no ecrã LCD do painel de controlo para indicar que o aparelho deixou de funcionar durante uns momentos.

Caso o indicador "SECU" apareça no seu painel de controlo e o seu aparelho se desligue, proceda da seguinte forma:

- Deixe o seu aparelho ligado à corrente, e não prima o interruptor "0/1".
- Consulte as recomendações do manual de instruções para readaptar a sua preparação (ver capítulo "COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO": quantidades de ingredientes/tempo da receita/temperatura/tipo de acessórios).
- Aguarde cerca de meia hora para que o motor arrefeça.

- Reinicie o aparelho premindo durante 2 segundos o botão "Start/Stop/Reset" (consultar B7 no manual de instruções).

O seu aparelho está novamente pronto para ser utilizado.

O Centro de Contacto do Consumidor está à sua disposição para qualquer questão (Ver contactos no folheto da garantia).

- Aguarde meia hora até o motor ficar frio.
- Volte a colocar o aparelho em funcionamento

premindo 2 segundos no botão "Start/Stop/Reset" (ref. B7 da nota)

O seu aparelho está pronto a ser novamente utilizado.

O nosso Centro de Contacto do Consumidor está à sua inteira disposição para qualquer esclarecimento (mais detalhes no folheto de garantia).

## LIMPEZA DO APARELHO

- O aparelho não deve ser mergulhado em líquidos. Não passe o bloco do motor (**A**) por água corrente.

Quando terminar de utilizar o aparelho, desligue-o da corrente.

- Limpe imediatamente a cuba após a utilização.
- Prima os gatilhos (**D2**) e, em seguida, retire o conjunto da taça (**D**).
- Coloque a taça numa superfície plana.
- Desenrosque a tampa rodando-a um quarto de volta no sentido dos ponteiros do relógio. Retire a tampa com cuidado.
- Os elementos da tampa (junta, suporte da junta e tampa) são desmontáveis. Quando as peças estiverem frias, liberte o suporte da junta da tampa, fazendo deslizar a extremidade da pega da escova de limpeza (**I**) entre os dois elementos, e faça uma pressão sem risco para os separar (ver Fig. 15).
- Tenha cuidado com a lâmina picadora « ultrablade » (**F1**) e com a lâmina para amassar/triturar (**F4**) quando as está a limpar e quando esvazia a taça, pois são extremamente afiadas.
- Quando as peças tiverem arrefecido:
  - desmonte o eixo comum (**D3**), a junta (**D4**), o anel de bloqueio (**D5**) (ver Fig. 13).
  - limpe a cuba (**D**), o eixo comum (**D3**), a junta (**D4**), o anel de bloqueio (**D5**), os acessórios (**F1**), (**F2**), (**F3**), (**F4**), (**F5**), a tampa reguladora de vapor (**E1**), a tampa (**E2**), o suporte da junta (**E3**) e a junta vedante (**E4**), com a ajuda de uma esponja, água morna e detergente para a loiça.
  - Enxague estes elementos com água corrente.
  - No caso de aparecimento de calcário na taça,

ou de manchas, pode utilizar o lado raspador de uma esponja embebida, se necessário, em vinagre branco, ou produtos de limpeza adaptados ao aço inoxidável.

- Em caso de sujidade acentuada, deixe de molho durante várias horas dentro de água com detergente da loiça e, se necessário, raspe com a espátula (**G**) ou com o lado de esfregar da esponja.
- Para limpar o bloco do motor (**A**), utilize um pano húmido. Seque-o cuidadosamente.
- Para facilitar a limpeza, saiba que a taça, o conjunto da tampa e os acessórios podem ser colocados na máquina de lavar loiça, à exceção do eixo comum (**D3** e **D4**) e do anel de bloqueio (**D5**) (ver Fig. 14).
- Os acessórios, o veio acionador comum amovível e os elementos da tampa, podem ficar ligeiramente manchados com determinados ingredientes como o caril, o sumo de cenouras, etc.; não representa qualquer perigo para a sua saúde, nem para o funcionamento do aparelho. Para evitar que tal ocorra, limpe os elementos rapidamente após cada utilização.
- Antes de reutilizar o conjunto da taça (**D**), certifique-se de que os contactos elétricos debaixo da taça estão sempre limpos e secos.
- Para não alterar os materiais do eixo, não o deixe dentro de água durante demasiado tempo.
- Para não alterar os materiais do recipiente (**D**), respeite as instruções de utilização da sua máquina de lavar loiça e não aumente as doses de sal ou de produtos para lavar a loiça.

## O QUE FAZER SE O APARELHO NÃO FUNCIONAR?

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Cozedura insuficiente	<p>Os tempos de cozedura são dados a título indicativo. Eles permitem, na maior parte dos casos, uma cozedura satisfatória.</p> <p>No entanto, algumas condições influenciam o tempo de cozedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O tamanho dos alimentos (cortados ou não)</li> <li>- A quantidade dos ingredientes</li> <li>- A variedade dos legumes, a sua maturidade</li> <li>- Se os ingredientes estão congelados ou não...</li> </ul>	<p>Adicione um tempo de cozedura suplementar, utilizando o seletor de duração de funcionamento (B4). Reduza o tamanho dos pedaços.</p>
	Tampa de regulação do vapor mal posicionada ou ausente.	<p>Coloque a tampa de regulação do vapor no sentido «vapor Max.» Na sua direção. Esta posição permite ganhar um máximo de calor na taça para todas as cozeduras (sopas, cozedura a vapor, etc.).</p> <p>Esta posição também evita salpicos durante a mistura.</p> <p>A posição «Vapor mín.» permite deixar escapar um máximo de condensação e obter assim pratos ou molhos com uma melhor consistência (Risotto, cremes de sobre-mesa, molhos, etc.).</p>
Cozedura a vapor insatisfatória	Quantidade inadaptada de água na taça. Pedaços demasiado grandes.	<p>A quantidade de água no recipiente deve corresponder à graduação (0,7L).</p> <p>Pode também utilizar o modo manual, selecionando a temperatura de 120 °C e o tempo de cozedura de acordo com a quantidade e o tipo de ingredientes.</p> <p>Reduza o tamanho dos pedaços.</p>
Dificuldades para ter sucesso nalgumas receitas	Receitas inadaptadas.	<p>As suas receitas, pessoais ou recolhidas a partir da Internet, podem não ser adaptadas ao seu aparelho ou aos seus acessórios (quantidades, tempo de cozedura, duração, acessórios inadaptados): Antes de começar a sua receita, certifique-se de que respeita as instruções de utilização indicadas neste manual de utilização.</p>
O aparelho não funciona.	A ficha não está ligada.	Ligue o aparelho à tomada.
	O interruptor (H) está na posição 0.	Coloque o interruptor na posição 1.
	A taça ou a tampa não estão correctamente posicionadas ou encaixadas.	Verifique se a taça ou a tampa estão bem posicionadas e encaixadas seguindo os esquemas do folheto.

PT

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
A tampa não encaixa.	A tampa não está completa.	Verifique se a junta está devidamente montada no suporte da junta e que este está corretamente montado na tampa.
Vibrações excessivas.	O aparelho não está colocado sobre uma superfície plana e, por isso, não está estável.	Utilize o aparelho sobre uma superfície plana.
	Volume de ingredientes excessivo.	Reduza a quantidade de ingredientes a preparar.
	Erro de acessórios.	Verifique se está a utilizar o acessório recomendado.
Ligeiro ruído durante o funcionamento	O eixo do seu aparelho pode dar origem a um ruído durante o funcionamento com a velocidade reduzida ou com alguns ingredientes (arroz...).	É um fenómeno passageiro que não tem quaisquer consequências para a duração de vida do seu aparelho. Ele desaparece passadas algumas utilizações e limpezas do eixo comum amovível (consulte o parágrafo «Limpeza do aparelho»).
Ruído excessivo durante o funcionamento	Utilização de um acessório incorreto.	Utilize um acessório adequado (ex: Não utilize o acessório batedor F3 para amassar ou misturar massas. Utilize a lâmina para amassar F4). Para isso, consulte as recomendações das receitas e instruções de utilização indicadas neste manual de utilização.
Fuga pela tampa.	Volume de ingredientes excessivo.	Reduza a quantidade de ingredientes a preparar.
	A tampa não está bem posicionada ou encaixada.	Encaixe corretamente a tampa na taça.
	A junta vedante não está presente.	Posicione a junta vedante no suporte da junta e encaixe o conjunto na tampa.
	A junta vedante está cortada, deteriorada.	Substitua a junta. Contacte um Serviço de Assistência Autorizado.
	Erro de acessórios.	Verifique se está a utilizar o acessório recomendado.
Fuga pelo eixo da taça.	A junta não está bem posicionada.	Posicione correctamente a junta.
	A junta está deteriorada.	Contacte um Serviço de Assistência Autorizado.
	O anel de bloqueio (D5) está mal encaixado.	Encaixe correctamente o anel (D5).
As lâminas não rodam facilmente.	Pedaços de alimentos demasiado grandes ou demasiado rijos.	Diminua o tamanho ou a quantidade dos ingredientes a preparar. Adicione líquido.
Odor vindo do motor.	Aquando da primeira utilização do aparelho, ou em caso de sobrecarga do motor provocado por uma quantidade significativa de ingredientes ou por pedaços demasiado rijos ou demasiado grandes.	Deixe arrefecer o motor (cerca de 30 minutos) e reduza a quantidade de ingredientes na taça.
Exibição de «STOP».	O aparelho detetou vibrações significativas e passou ao modo de segurança.	Verifique se está a utilizar a velocidade ou o acessório recomendado.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Exibição de «SECU».	Sobrecarga do motor provocado por uma quantidade significativa de ingredientes ou por pedaços demasiado ríjos ou demasiado grandes ou uma sucessão de receitas sem tempo de arrefecimento suficiente.	Deixe arrefecer o motor (cerca de 30 minutos) e reduza a quantidade de ingredientes na taça.
Exibição «SECU» + indicador luminoso vermelho a piscar.	Sobreaquecimento dos sensores de temperatura.	Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Exibição «Err1» + indicador luminoso vermelho a piscar.	A resistência de aquecimento não funciona.	Verifique se os pinos de alimentação, localizados por baixo da taça, não estão sujos. Se for este o caso, limpe-os e experimente novamente. Se continuar a não funcionar, contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Exibição de «Err2».	Avaria eléctrica.	Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Exibição de «Err3».	Problema de velocidade.	Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Exibição de «Err4».	Problema de comunicação com a placa electrónica chopper.	Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Apresentação da mensagem «Err8».	Falha no sensor de segurança de bloqueio.	Contacte um centro de reparação autorizado.
Exibição «ntc1» + indicador luminoso vermelho a piscar.	O sensor 1 de temperatura não funciona.	Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Exibição «ntc2» + indicador luminoso vermelho a piscar.	O sensor 2 de temperatura não funciona.	Contacte um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Apresentação do indicador luminoso de segurança (C5) (⑥)	Bloqueio incorreto do recipiente ou da tampa.	Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a taça está corretamente bloqueada no bloco do motor e a tampa está corretamente bloqueada na taça. Se o problema persistir, contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado.
A segurança de bloqueio da tampa permanece ativa (haste para cima) e não permite bloquear a tampa.	O aparelho foi desligado durante uma receita passando o interruptor de I/O para 0, ou simplesmente desligado da corrente durante a receita.	Basta voltar a colocar o interruptor de I/O para 1 para reiniciar o robot e a segurança de bloqueio da tampa. A haste volta automaticamente para a posição de origem. Agora, pode bloquear a tampa.

**O seu aparelho continua a não funcionar?**

Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consultar lista no folheto).

## RECICLAGEM

- Eliminação dos materiais de embalagem e do aparelho.



A embalagem é composta exclusivamente por materiais que não representam qualquer perigo para o ambiente, que podem ser eliminados em conformidade com as disposições de reciclagem em vigor.

Para a eliminação do aparelho, informe-se junto do serviço adequado da sua freguesia.

- Produtos eletrónicos ou elétricos em fim de vida:

**Proteção do ambiente em primeiro lugar!**



- ① O seu aparelho contém inúmeros materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ② Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

المشكلة	السبب	الحلول
"شاشة رقمية تعرض الرمز "SECU"	حمل مفرط على المحرك بسبب الكمية الزائدة من المكونات أو بسبب قطع المكونات كبيرة جدًا أو الاستعمال المفرط دون وقت كاف للتبديد.	اتصل بمركز خدمة معتمد.
+ مؤشر ضوئي يومض.	مجسات حرارية للتفسخ المفرط.	تاكيد أن مسامير التوصيل الكهربائي تحت الوعاء غير مسدودة، في هذه الحالة نظفها وحارل مرة أخرى، إذا بقىت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد.
+ مؤشر ضوئي يومض.	عطل الكتروني	يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد.
+ عطل الشاشة الرقمية الرمز "Err2"	عطل في السرعة	يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد.
+ عطل الشاشة الرقمية الرمز "Err3"	خطأ في الاتصال مع البطاقة الإلكترونية للمفرمة	يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد.
+ عطل الشاشة الرقمية الرمز "Err4"	خطأ في أداة إستشعار قفل الأمان	يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد.
+ مؤشر ضوئي يومض.	المجس الحراري 1 لم يعد يعمل	يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد.
+ مؤشر ضوئي يومض.	المجس الحراري 2 لم يعد يعمل	يرجى الاتصال بمركز خدمة معتمد.
ظهور مؤشر الحماية (C5)	إغلاق خاطئ للوعاء أو الغطاء	قبل تشغيل الجهاز، تحقق إذا تم تركيب الوعاء على كلة المحرك بشكل صحيح، وإذا تم تركيب الغطاء بشكل صحيح على الوعاء، إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة معتمد.
ينفي أمان قفل الغطاء نشطًا (القضيب للخارج) ولا يقتضي تثبيت الغطاء.	تم إيقاف تشغيل الجهاز أثناء الوفصة عن طريق تبديل مفتاح تشغيل / إيقاف إلى الرمز O أو مجرد إيقاف تفريغ وصفة قيد التحضير.	ما عليك سوى تبديل موقع مقاييس تشغيل / إيقاف الموجود على الرمز 1 ، لإعادة ضبط الروبوت وأمان القفل ، سوف يعود القضيب ثلقائيا إلى وضعه الأصلي ، يمكنك الآن إغلاق الغطاء.

هل زال المنتج لا يعمل؟  
رجي الاتصال بمركز خدمة معتمد. (انظر القائمة في كتيب الخدمة)

### إعادة التدوير

- للتخلص من مواد التعليب والتغليف والجهاز.
- يحتوي التغليف على مواد غير ضارة للبيئة، والتي يمكن إعادة تدويرها حسب قوانين التدوير سارية المفعول. للتخلص من المنتج، راجع الدائرة المحلية للسلطات المدنية في بلدك.

نهاية جهاز كهربائي أو الكتروني:  
حالية البيئة أولاً

- ❶ يحتوي هذا المنتج على مواد ذات قيمة تصنيعية ويمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها.  
❷ سلمها لإحدى نقاط التجميع المختصة بهذا العمل.



الحلول	المسبب	المشكلة
ضع المنتج فوق سطح مستو، المنتج ليس مستقرًا.	لم يوضع المنتج فوق سطح مستو، المنتج ليس مستقرًا.	اهتزازات مفرطة.
اخفض كمية المكونات.	حجم المكونات كبير جداً.	
تأكد أنك تستعمل الملحق الصحيح.	خلأ أو خطأ في الملحق.	
هذه ظاهرة مؤقتة، ولا تؤثر سلبياً على حياة جهازك، وسوف تتلاشى أو تخفي بعد بعض الاستخدامات، وبعد تنظيف الجهاز عدة مرات (انظر الفقرة "تنظيف الجهاز").	قد تصدر ضوضاء خفيفة من الجهاز أثناء التشغيل على سرعة منخفضة أو مع بعض المكونات (الأزرار ...).	سماع الضوضاء طفيفة أثناء التشغيل
تأكد من استخدام الملحق المناسب (على سبيل المثال لا تستخدم المحفظة F3 للعجين أو خلط المكونة، استخدم السكين F4). من أجل هذه، يرجى الرجوع إلى التوصيات وتعليمات التشغيل الواردة في هذا الدليل.	استخدام الملحق الخطا	ضوضاء مفرطة خلال التشغيل
اخفض كمية المكونات.	حجم المكونات كبير جداً.	
اقفل الغطاء على الوعاء بإحكام.	الغطاء ليس في موقعه الصحيح أو أنه مقفل.	
ضع السدادة في الحاملة وأشبك التركيبة بالعلاء.	السدادة غير موجودة.	تسرب في الغطاء.
استبدل السدادة، اتصل بمركز خدمة معتمد.	السدادة مقطعة أو أنها تالفة.	
تأكد أنك تستعمل الملحق الصحيح.	خلأ أو خطأ في الملحق.	
ركب السدادة بشكل صحيح.	السدادة غير مرکبة بشكل صحيح.	
اتصل بمركز خدمة معتمد.	السدادة تالفة.	تسرب من خلال محور الوعاء.
اقفل الحلقة بإحكام.	حلقة الإقفال (D5) غير مقلطة بشكل صحيح.	
خفف حجم المكونات أو كميتها، أضف القليل من السوائل.	وجود قطع كبيرة أو قاسية من الطعام.	الشفرات لا تدور بسهولة.
عند تشغيل المنتج للمرة الأولى، أو في حال التحabil المف躬 الذي تُسبّبه المكونات من حيث اترك المحرك إلى أن يبرد تماماً، (حوالى 30 دقيقة) ثم خفف كمية المكونات أو حجمها الكبير.	عند تشغيل المنتج للمرة الأولى، أو في حال التحabil المف躬 الذي تُسبّبه المكونات من حيث الكمية والحجم، أو في حال صلابة المكونات أو حجمها الكبير.	رانحة تصدر عن المحرك.
يُرجى التأكد بأنك تستعمل السرعة المناسبة وبالتالي أنك تستعمل الملحق الصحيح.	اكتشف المنتج اهتزازات عنيفة، وقد تحول تلقائياً إلى وضعية السلامة.	الشاشة الرقمية تعرض الرمز "STOP".

AR

## ماذا تفعل إذا توقف المنتج عن العمل

المشكلة	السبب	الحلول
الطعام غير مطبوخ جيداً	أوقات الطهي المعتادة هي للدلة، ولكنها في معظم الحالات تعطي نتائج طبخ مرضية. ومع ذلك، فإن حالات معينة تؤثر على وقت الطهي: - حجم المواد الغذائية (مقطعة أو غير مقطعة) - كمية المكونات - أنواع الخضروات، ونسبة النضوج - إذا كانت المكونات متلاجة أو لا ....	- إضافة وقت الطبخ بواسطة منقى وقت التشغيل (B4). - تقليل حجم قطع المكونات.
نتائج تخمير غير مرضية	كمية غير مناسبة من الماء في الوعاء. قطع المكونات كبيرة جداً.	ضع سادة البخار في موقع "البخار القوي" في مواجهتك، يوفر هذا الموقع أقصى قدر من الحرارة داخل الوعاء لجميع أنواع الطبخ (الشوربة، التبخير، وما إلى ذلك). مأخذ البخار ليس في موضعه الصحيح، أو انه مفقود يُثبت هذا الموقع أيضاً تطاير المكونات عند الخلط. موقع "بخار خفيف" يسمح بتصرف الحد الأقصى من التكثيف، والحصول على الاتساق الأفضل للأطباق أو الصالصات (أرز البادينغ، الحلويات والصلصات، الخ)
صعوبة في إنجاح بعض الوصفات	وصفات طهي معدلة	يجب أن تتوافق كمية الماء في الوعاء مع حجم (0.7 لتر). يمكك أيضاً استخدام الوضع اليدوي وذلك بتحديد درجة الحرارة عند 120 درجة مئوية، وتدديد وقت الطبخ بالإعتماد على حجم ونوع المكونات. تقليل حجم قطع المكونات.
المنتج لا يعمل.	غير موصول بالتيار الكهربائي.	قد تكون هذه الوصفات شخصية أو مأخوذة عن شبكة الإنترن트 وليس مناسبة لهذا الجهاز أو ملحوظاته (الكتابات ووقت الطهي ومدته والملحقات خاطئة) قبل البدء بوصفك، تأكد من اتباع التعليمات المعلنة للاستخدام في هذا الدليل.
الغطاء لا يغلق.	الغطاء ليس مركباً بالكامل.	أوصل المنتج إلى مقابس كهربائي. ضع المفتاح على الموقع "1". مفتاح التشغيل (H) في موقع "0". الوعاء أو الغطاء ليسا في مكانهما الصحيح، أو أنهما يرجي التأكد بأن الوعاء أو الغطاء موجودان في موضعهما الصحيح ومقفلان حسب الرسم في دليل الاستعمال.

AR

- يجب أن لا يُغمر المنتج بالماء ولا بأي سائل آخر. لا تضع وحدة المحرك (A) تحت المياه الجاربة.
- بعد الانتهاء من استعمال المنتج، يُرجى فصله عن التيار الكهربائي.
- يُرجى تنظيف الوعاء فوراً بعد الاستعمال.
  - أضغط على الأيقال (D2)، ثم ارفع تركيبة الوعاء (D).
  - ضع الوعاء فوق سطح مسنوٍ ثابت.
  - حرر الغطاء بواسطة تحريكه دائرياً ربع دورة حسب اتجاه عقارب الساعة. ارفع الغطاء بكل حرص وعناية.
  - أجزاء الغطاء (السدادة، حاملة السدادة والغطاء) هي قابلة للتلف. عندما تبرد هذه الأجزاء، فك غطاء حاملة السدادة بواسطة تحريكها بطرف مقبض فرشاة للتنظيف (I) (الفصل بين الجزيئين ولتنقيث الضغط للصلب بين الجزيئين بشكل آمن (انظر الشكل 15).
  - يُرجى توخي الحرص عند التعامل مع شفرات المفرمة (F1) وسكنية العناء/الهرس (F4) أثناء التنظيف وأثناء تفريغ المكونات من الوعاء لأن اتصالها حادة جداً.
  - بعد أن تبرد جميع الأجزاء تماماً:
    - فك المحور الدوار الرئيسي (D3)، السدادة (D4)، وحلقة الإيقال (D5) (انظر الشكل 13).
    - نظف الوعاء (D)، المحور الدوار الرئيسي (D3)، السدادة (D4)، حلقة الإيقال (D5)، الملحقات (F1) و (F2) و (F3) و (F4) و (F5)، سدادة تنظيم البخار (E1)، الغطاء (E2)، حاملة السدادة (E3) والسدادة (E4) باستعمال الإسفنجية وبالماء والصابون.
- أغسل هذه القطع المختلفة تحت المياه الجاربة.
- في حال ظهور تراكم من التكليس في الوعاء يمكن استخدام الجانب الكاشط من إسفنجية مبللة بالماء، أو بالخل الأبيض إذا لزم الأمر، أو منتجات التنظيف المناسبة للإستانلس ستيل.
- في حال حدوث انسداد متغير، دع القطعة لتنقع بالماء مع سائل تنظيف عادي عدة ساعات، ويمكن كشطها لاحقاً بملعقة إذا لزم الأمر (G).
- في حال تراكم التكليس في الوعاء، يمكن استعمال الجانب الخشن من إسفنجية المطبخ.

## وضعية التشغيل اليدوي

يُصبح البرنامج الآوتوماتيكي في وضعية التوقف المؤقت، ويبيّن لديك إمكانية إعادة تشغيله بالضغط على زر "start" مرة ثانية. في حال اخترت البرنامج الخطا، ورغبت في الغاءه، اضغط على زر "Stop" واستمر بالضغط لمدة ثانيةين.

4. عندما ينتهي البرنامج، يصدر عن المنتج 3 إشارات تتبّع صوتية.

5. اضغط على الإقال (D2) ثم افصل تركيبة الوعاء (D). انظر الشكل (12).

### وظيفتي تيربو/نبض

1. استعمل لوحة التحكم (B) لكي تصل مباشرة إلى سرعة "تيربو" وسرعة "النبض" (B5). لاستعمال وضعية تيربو (الوصول المباشر للسرعة القصوى)، بكل سهولة، اضغط واستمر بالضغط على المتنقى "تيربو". سوف تعراض الشاشة الرقمية الوقت المستعمل (C3) لمساعدتك لاستعمال وضعية "النبض" (التشغيل المتقطّع)، فقل الخاصية ثم أوقفها بالضغط على متنقى "Pulse". وهذا أيضًا تقوم الشاشة بمساعدتك بالإشارة إلى الوقت المستعمل. عند اعتماد الوظيفة بالعمل، يمكن لديك احتمال إيقاف تشغيل المنتج في أي وقت بالضغط على زر "Stop". لذلك تكون هذه الوظيفة في وضعية التوقف المؤقت، ويكون لديك إمكانية إعادة التشغيل بالضغط على زر "start" مرة ثانية.



1. اضغط مباشرة على المتنقى الذي يمثل الضوابط التي تزيد تدعيه، مثلًا متنقى السرعة (B2)، أو متنقى حرارة الطهي (B3) أو متنقى الوقت (B4)، سوف يومض المؤشر التالي له على شاشة العرض (C1-C2-C3).



2. ثم عدل الضوابط باستعمال المتنقى +/- (B6). من أسباب السلامة الضرورية، فإنه ليس من الممكن ضبط درجة الحرارة دون ضبط وقت الطهي.



3. عندما تنتهي من إدخال جميع قيم الضوابط، اضغط على زر التشغيل اي "tStart" (B7). عندما يكون المنتج في وضعية الطهي، يُضيء المؤشر الضوئي الأحمر (B3) للدالة على بدء عملية الطهي. وعندما يبدأ البرنامج، يكون لديك احتمال إيقاف تشغيل المنتج في أي وقت بالضغط على زر "Stop".

AR

## هام - إرشادات "كيف تضمن سلامة المنتج" ("SECU")

• ترك المنتج مفصولاً عن التيار الكهربائي، لا تضغط على زر التشغيل "1/0".

• يرجى مراعاة التوصيات في قسم الإرشادات وإعادة تكيف استعمالك للمنتج (انظر فقرة "الاستعمال للمرة الأولى": كمية المكونات/وقت تحضير الوصفات/درجة الحرارة/نوع الملحق المستعمل).

• يترك المحرك لكي يبرد تمامًا لمدة نصف ساعة.

• يُعد تشغيل المنتج بالضغط على زر "Reset/Stop/Start" لمدة ثانيةين (انظر فقرة B7 في قسم الإرشادات).

الم المنتج الآن قد أصبح جاهزًا للاستعمال ثانية. لمزيد من المعلومات، فإن قسم خدمة الزبائن تحت تصرفكم (انظر التفاصيل في كتيب الضمانة).

جهر هذا المنتج، قياسياً، بحماية الإلكترونيات للمحرك لضمان أن يدوم طويلاً. هذه الحماية هي ضد الاستعمال الخاطئ؛ وبهذه الطريقة، يمكن المحرك قيد الحماية.

في ظروف قاسية جداً من الاستخدام، أو في حال التدخل الشخصي (مثل الإنترنت وغيرها ...)، وعدم التقيد بالتوصيات الواردة في هذه النشرة (انظر فقرة "إنه التشغيل": في حال وجود كميات كبيرة جداً / أو استخدام غير طبيعي لفترات طويلة و / أو سلسلة من الوصفات الغربية)، يتم تنشيط الحماية الإلكترونية للحفاظ على المحرك. في هذه الحالة، يتوقف الجهاز عن التشغيل ويعرض الرمز "SECU" في لوحة التحكم للإشارة إلى أن الجهاز يتوقف للحظات.

إذا ظهرت علامة ("SECU") على لوحة التحكم وتوقف المنتج عن العمل يرجى مراعاة ما يلي:



## استعمال سلة البخار

أوقات الطهي المعطرة هي على سبيل المعلومات فقط؛ في معظم الحالات سوف يطهى الطعام بشكل مثالي.

- "تذكرة استخدام غطاء البخار بحيث تكون عالمة "الحد الأقصى للبخار" (a) في اتجاهك".
- إن لم ينضج الطعام نضوجاً تاماً، يمكن ضبط وقت طهي إضافي.

ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي قد تؤثر على أوقات الطهي:

- حجم الخضار (مقطعة أو غير مقطعة)
- نوعية المكونات في السلطة.
- نوع الخضار، نضوجهها.
- كمية الماء في الوعاء، التي يجب أن تتوافق مع القياس المُبين (0.7 لتر).

يمكنك أيضًا استعمال التشغيل اليدوي بانتقاء حرارة 130 درجة مئوية و لمدة الطهي حسب كمية ونوعية المكونات: انظر الجدول أدناه

وقت الطهي على البخار			
المكونات	الكميات (الحد الأقصى)	أوقات الطهي المفترضة	برامج البخار الموصى بها
كوسا	800 جرام	20 دقيقة	P1
جزر أبيض	800 جرام	25 دقيقة	P1
الجزء الأبيض من الكراث	800 جرام	25 دقيقة	P1
بروكلي	500 جرام	25 دقيقة	P1
سمك	600 جرام (مع رقائق المعجنات)	15 دقيقة	P1
بطاطس	1 كلج	30 دقيقة	P2
جزر	1 كلج	30 دقيقة	P2
فاصوليا خضراء	800 جرام	30 دقيقة	P2
لحمة بيضاء	600 جرام (مع رقائق المعجنات)	20 دقيقة	P2

قد تسبب بعض أنواع الوصفات طوفاناً غير متوقع، نظراً لظهور فقاعات، خصوصاً عند استعمال الخضار المثلجة. في هذه الحالة، يجب تخفيف الكميات وفقاً لذلك.

AR

P3	يختة	P2	يختة	P1	يختة	P2	شوربة	P1	شوربة	صلصة		
	sauce		sauce		sauce		soup		soup		البرامج الأوتوماتيكية	
	F1		F2		F3		F4		F5		السرعة "الأفرادية" (قابلة للتعديل)	
V2	95 درجة مئوية (من إلى 100 درجة مئوية)	V1	95 درجة مئوية (من إلى 80 درجة مئوية)	V3	130 درجة مئوية (غير قابلة للتعديل)	سرعة V7 لغاية سرعة V10 لمدة ثانية 30	سرعات بسرعة V10 لمدة 2 دقيقة	10 نبضات بسرعة V12	70 درجة مئوية (من 50 إلى 100 درجة مئوية)	V6 (من V2 إلى (V8		الحرارة "الأفرادية" (قابلة للتعديل)
20 دقيقة (من إلى 10 دقائق لدقائق 10 ساعتين)	45 دقيقة	5 دقائق (من 2 إلى 15 دقيقة)	45 دقيقة (من 20 إلى 60 دقيقة)	45 دقيقة (من 20 إلى 40 دقيقة)	45 دقيقة (من 5 إلى 40 دقيقة)	45 دقيقة	45 دقيقة	45 دقيقة	45 دقيقة		سرعة الوقت (قابلة للتعديل)	
45 دقيقة	45 دقيقة			45 دقيقة							وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً عند انتهاء الطهي	
10 ثوانٍ تشغيل/عدّ ثانية 10 عند التوقف	5 ثوانٍ تشغيل/ V3 عند ثانية 20 التوقف								V4		سرعة المحرك في وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً	

حلويات	P3	معجنات	P2	معجنات	P1	معجنات	اطباق مطهوة على البخار P2	اطباق مطهوة على البخار P1	
									البرامج الأوتوماتيكية
									السرعة "الأفرادية" (قابلة للتعديل)
40 سرعة V3 ثانية ثم بسرعة V9 لمدة 3 دقيقة	سرعة V5 لمدة 1 دقيقة و 30 ثانية ثم بسرعة V6 لمدة دقيقة 2	سرعة V5 لمدة 1 دقيقة و 30 ثانية ثم بسرعة V6 لمدة دقيقة 2	سرعة V5 لمدة 2 دقيقة و 30 ثانية						الحرارة "الأفرادية" (قابلة للتعديل)
90 درجة مئوية (من 50 إلى 110 درجة مئوية)									سرعة الوقت (قابلة للتعديل)
15 دقيقة (من 5 دقائق إلى 60 ثانية)	40 دقيقة (من 30 ثانية إلى 30 ثانية) و40 دقيقة (من 2 دقيقة إلى 40 ثانية)	3 دقائق و 30 ثانية (من 30 ثانية إلى 30 ثانية) (من ثانية 30 ثانية إلى 2 دقيقة و ثانية 30 ثانية)	3 دقائق و 30 ثانية (من 30 ثانية إلى 30 ثانية) (من ثانية 30 ثانية إلى 2 دقيقة و ثانية 30 ثانية)	2 دقيقة (من 60 دقيقة إلى 60 دقيقة)	30 دقيقة (من 60 دقيقة إلى 60 دقيقة)	30 دقيقة (من 60 دقيقة إلى 60 دقيقة)		وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً عند انتهاء الطهي	سرعة المحرك في وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً
45 دقيقة					45 دقيقة	45 دقيقة			
V4			40 دقيقة	40 دقيقة				سرعة المحرك في وضعية الحفاظ على الطعام ساخناً	

أوصل المنتج بالتيار الكهربائي، اضبط المقاوح (H) على 1، سوف تعرض الشاشة الرقمية (C) جميع رموز الضوابط على "0" (انظر الشكل 9)

### وضعية البرامج الآوتوماتيكية

- عند نهاية برنامج الصلصة، الشورية، البخنة P2 وP3، والأطiac المطهوة على البخار وأطiac الحلوi والكربيا، يتحول المنتج آوتوماتيكيًا ليعيق الطعام ساخنًا لمدة 54 دقيقة لإبقاء التحضير جاهزًا للتناول، في برنامج الصلصة" P2 وP3 التي، الحلويات والمعجنات، يعمل المحرك في المنتج حسب سرعة محددة، لكي تتمكن من الحفاظ على التحضير وتتجنب التصاق المكونات، في قعر الوعاء، لإيقاف خاصية الحفاظ على الطعام ساخنًا، اضغط على زر الإيقاف (D2) "Stop" (B7). إذا فتحت الغطاء، اضغط على القفل (D2) أو إذا فصلت الوعاء تتوقف خاصية الحفاظ على الطعام ساخنًا بشكل آوتوماتيكي.
- عند نهاية برنامج الصلصات، الطهي البطيء P2 وP3 وكريما اليابانية، أثناء وضعية الحفاظ على الطعام ساخنًا، سوف يستمر المحرك بالعمل حتى لا تلتتصق المكونات على جوانب أو قعر الوعاء.

AR

- في نهاية العجن من خلال برنامج المعجنات P1 وP2، يتحول المنتج إلى وضعية "رفع العجينة" عند درجة الحرارة 30 منوية لمدة 40 دقيقة ليسمح للعجينة أن تكتسب حجمًا أكبر. إذا فتحت الغطاء، اضغط على القفل (D2) أو إذا فصلت الوعاء، يتحول المنتج إلى وضعية التوقف المؤقت، ويبيّن لك الخيار في إعادة تشغيله بالضغط على زر "trats" مرة ثانية. إذا رغبت أن توقف هذه الخاصية، اضغط على زر "Stop" واستمر بالضغط لمدة ثانية.

- اضغط على الأقفال (D2) ثم افصل تركيبة الوعاء (D) (انظر الشكل 12).

عندما يبدأ البرنامج الآوتوماتيكي، يكون لديك احتمال إيقاف تشغيل المنتج في أي وقت بالضغط على زر "Stop". يُصبح البرنامج الآوتوماتيكي في وضعية التوقف المؤقت، ويبقى لديك إمكانية إعادة تشغيله بالضغط على زر "Start" مرة ثانية. في حال اختارت البرنامج الخطأ، ورغبت في إلغائه، اضغط على زر "Stop" واستمر بالضغط لمدة ثانية.

- اضغط على البرنامج الذي تختاره (B1)، سيظهر على الشاشة مثلث (C4) في البرنامج الذي تم اختياره. في حالة برامح الشوربات، اليخاني والمعجنات، فإن الضغط المتتالي سوف يأخذك إلى مختلف البرامج الفرعية.



- البرامج المُسيقة الضبط، يمكن تعديلاً من حيث وقت وصفة الطهي (حسب المكونات المختارة لذلك الوصفة والمكونات المُحضررة). اضغط على منتقي السرعة (B2) أو منتقي حرارة الطهي (B3) أو منتقي الوقت (B4)، الضبط الذي يتم اختياره سوف يومنض على شاشة العرض (C1-C2-C3).



- تعديل الضبط/الضوابط باستعمال المنقي +/- (B6).



- عندما تنتهي من تعديل جميع الضوابط، اضغط على زر التشغيل (B7) "trats" لتشغيل البرنامج. عندما يكون المنتج في وضعية الطهي، يُضيء المؤشر الضوئي الأحمر (B3) للدلالة على بدء عملية الطهي.



- عندما ينتهي البرنامج، يصدر عن المنتج 3 إشارات تنبيه صوتية.

طريقة استعمال لوحة التحكم (B)  
اختيار أحد البرامج الآوتوماتيكية:

الطهي على البخار  
(في البرنامج P1 بخار خفيف / P2 بخار قوي)



صلصات



المعجنات  
(في البرنامج P1 الخبز / P2 بريوش / P3 الكيك)



الشوربات  
(في البرنامج P1 المصلصات اللزجة / P2 البشر)



الحلويات



البخاني  
(في البرنامج P1 خضار الكسرولة / P2 الطهي البطيء / P3 ريزوتو)



#### اختيار الضوابط الخاصة

زيادة السرعة، درجة حرارة الطهي  
والوقت.  
إنقاص السرعة، درجة حرارة الطهي  
والوقت.



اختيار سرعة المحرك.  
سر عكان للتشغيل المتقطع و 10 سرعات  
متواصلة دون توقف.



ل لهذا الزر 3 وظائف:  
- "التحقق" من اختيارك للبرنامج  
الأوتوماتيكي أو الضوابط المختارة  
في سياق الاستعمال اليدوي (السرعة،  
حرارة الطهي، الوقت).  
- "التنفس" خلال الاستعمال، وبمجرد بدء  
تشغيل المنتج.  
- "إعادة ضبط" الضوابط المختارة في  
المنتج، بالضغط لفترة ثانية.



اختيار سرعة الطهي.  
من 30 إلى 130 درجة مئوية.  
مؤشر التسخين الضوئي: يضيء عندما تبدأ  
عملية الطهي، وينطفأ عندما تنخفض الحرارة  
داخل الوعاء إلى ما دون 50 درجة مئوية.



AR

اختيار وقت التشغيل.  
من 5 ثوانٍ لغاية ساعتين (2).



اختيار سرعة تيربو (السرعة القصوى في  
الوصول المباشر) والتنفس (التشغيل المتقطع)  
دون استعمال ضوابط أخرى.



#### نصائح في الاستعمال

رُؤَد هذا المنتج بمُعالج دقيق جدًا يتحكم ويحلل مدى استقراره. في حال عدم الاستقرار، سوف تنخفض سرعة دوران المحرك  
أوتوماتيكي، وإذا استمرت حالة عدم الاستقرار، سوف يتوقف المحرك، وبالتالي يُعرض على الشاشة الرقمية رمز "Stop".

- تأكِّد من كمية المكونات، وأنها ليست كبيرة وأن السرعة المستعملة صحيحة.
- تأكِّد بأنك تستعمل الملحق المناسب الموصى به.
- ثم أعد ضبط المنتج بشكل عادي.



زُودت هذا المنتج بفتحة 1/0، اضبط المفتاح على موقع 1. (انظر الشكل 9)  
أرفقت مع هذا المنتج الملحقات المدرجة أدناه:

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦		لخلط الشوربة	١٢	٣ دقائق	٢ لتر	١٠٠°C
		لخلط الكمبوت	١٢	٤٠ ثانية	كلاج	١٠٠°C
		لفرم الخضار	١٢	١٥ ثانية	كلاج	١٠٠°C
		لفرم اللحوم	١٢	٣٠ ثانية	كلاج	١٠٠°C
		لفرم السمك	١٢	١٥ ثانية	كلاج	١٠٠°C
		لا تستعمل هذا الملحق مزج المكونات الصلبة، استعمل ملحق العجن/الطحن F4				
٧ ٨ ٩		الأطباق المحمّرة	٣	٥ دقائق	٥٠٠ جرام	١٣٠°C
		البخاري	١	٤٥ دقيقة	٢٠ لتر	٩٥°C
		ريزوتو	٢	٢٢ دقيقة	١٠ لتر	٩٥°C
راتائيبي، شانتيه، تشغيل مُنقطع (الضبط: راجع تثبيت الوصفات)						
١٠ ١١ ١٢ ١٣		لخفق بياض البيض	٦	١٠/٥ دقائق	٧ بالحد الأقصى	
		اطباعي، الكريما المخفوقة	٦	٥/٢ دقيقة	٠٠ لتر	
		صلصلت، كرما	٦ من ٤ إلى	١/٢٠ دقيقة	١ لتر	٦٠-٩٠°C
		بطاطس مهروسة	٦ من ٦ إلى	١ دقيقة	١ لتر	
بولينتا						
١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠		لعن عجينة الخبز الأبيض	٥	٢ دقيقة ٣٠ ثانية	١٢ كلاج	
		لعن عجينة الحلويات الهشة، عجينة البسكويت، الخصوصي	٥	٢ دقيقة ٣٠ ثانية	١ كلاج	
		لعن العجينة القابلة للرفع (بريوش، كوجاولف، .. الخ..)	+ ٥	١ دقيقة ٣٠ ثانية	٠٨ كلاج	
		لخاط العجينة السائلة الخفيفة (مزيج الكعكة، .. الخ..)	+ ٦	٤٠ ثانية	١ كلاج	
		لسحق الجوز	١٢	١ دقيقة	٠٦ كلاج	
		لفرم المكونات الجامدة	١٢	١ دقيقة	٠٦ كلاج	
		لسحق مكعبات الثلج	١٢	١ دقيقة	١٠ لتر من ٦ إلى	
		عجزنة البانكيك، عجينة الوافل	١٠	١ دقيقة	١٥ لتر	
٢١ ٢٢		طهي الخضار على البخار، السمك أو اللحوم		٤٠/٢٠ دقيقة	١ كلاج	١٠٠°C
		الشوربات مع قطع من المكونات	١٢	٣ دقائق	٢٠ لتر	١٠٠°C
٢٣		١ سدادة / غطاء / تنظيم إخراج البخار		٤٠/٢٠ دقيقة	١ كلاج	١٠٠°C
		ضبط البخار العالي (a) = للطهي على البخار ضبط البخار الخفيف (b) = ريزوتو، حلويات من الكريما، الصلصات، الخ..				

زُودت هذه الملحقات ايضاً بمناطق صالحة للإمساك بها لتسهيل التعامل أثناء التحضيرات.

AR

عند قراءة دليل الاستعمال هذا، سوف تجد توصيات الاستعمال، التي سوف تتيح لك معرفة ما يمكن أن يؤديه هذا الجهاز من أعمال: تحضير المصلصات، الشوربات، البخاري، الأطباق المطهوة على البخار، العجائن والحلويات.



## وصف أجزاء المنتج:

D	تركيبة الوعاء	A	وحدة المحرك
D1	وعاء استانلس ستيل	B	لوحة التحكم
D2	أقفال	B1	زر اختيار البرنامج الآوتوماتيكي
D3	محور دوار قابل للفصل	B2	منتقى السرعة
D4	سدادة	B3	منتقى حرارة الطهي وأو مؤشر التسخين الضوئي
D5	حلقة إقفال المحور	B4	منتقى وقت التشغيل
E	تركيبة الغطاء	B5	منتقى سرعة تيربو/تشغيل منقطع/-/+
E1	غطاء منظم البخار	B6	منتقى
E2	غطاء	B7	زر التشغيل/الإيقاف/إعادة الضبط
E3	حاملة المساددة	C	شاشة رقمية
E4	سدادة	C1	عرض السرعة
F	الملحقات:	C2	عرض الحرارة
F0	صندوق تخزين الملحقات	C3	عرض الوقت
F1	شفرة "الترا بليد" للمفرمة	C4	منتقى عرض البرنامج
F2	حاط	C5	مؤشر عرض السلامة
F3	مخففة		
F4	سكن للعنjin/للبشر		
F5	سلة البخار		
G	سباتولا		
H	مفتاح 0/1 لقطع التيار الكهربائي عن المنتج		
I	فرشاة للتنظيف		

## البيانات التقنية:

القدرة الكهربائية: 1550 واط (1000 واط: لعناصر التسخين 550 واط: للمحرك)

الدرجات الحرارية: من 30 درجة إلى 130 درجة مئوية  
قابلة للضبط والتتعديل 5 درجات مئوية بكل خطوة

درجات أوقات التشغيل: من 5 ثوان إلى ساعتين (2)  
قابلة للضبط 5 ثوان إلى دقيقة واحدة لكل خطوة بالحد الأقصى

عدد السرعات: 12

السرعة 1 (5 ثوان تشغيل/20 ثانية توقف).  
السرعة 2 (10 ثوان تشغيل/10 ثوان توقف).

10 - سرعات تقدمية متواصلة  
(السرعات من 3 إلى 12)

## خدمة ما بعد البيع

• من أجل سلامتك، لا تستعمل ملحقات أو قطع غيار أخرى غير المتوفرة في مراكز ما بعد البيع المعتمدة.

• إن أي تدخل من قبل في المنتج غير أعمال التنظيف والصيانة الاعتيادية، لا يقوم به سوى مركز الخدمة المعتمد.

• يرجى مراجعة الجدول تحت عنوان: "ما إذا تفعل إذا توقف المنتج عن العمل" في نهاية دليل الاستعمال المرفق.

- اسكب أولاً المكونات الصلبة في الوعاء قبل إضافة المكونات من السوائل، دون أن تتحطى علامة الحد الأقصى 2.5 لتر الموجودة داخل الوعاء (انظر الشكل 11).
- إذا كان الوعاء مليئاً، فقد يحدث طوفان للماء المغلي خارج الوعاء.
- يُرجى الملاحظة، في برامح الطهي على البخار، يُرجى الحفاظ على المستوى 0.7 لتر (انظر الشكل 4.2).
- لا تضع أصابعك أو أي آداة أخرى في الوعاء أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تستعمل الوعاء كحاوية (لتخزين، للتبريد، للتعقيم).
- ضع المنتج فوق سطح ثابت، مقاوم للحرارة.
- لا تضع المنتج بالقرب من جدار أو خزانة: فقد تتضرر بالبخار.
- لا تضع المنتج بالقرب من مصدر حراري قيد التشغيل (موقد، أجهزة منزلية، إلخ...).
- لا تُعطي الطعام بمنشفة الصحون ولا بأي شيء آخر. لا تحاول سد فتحة الطعام، استعمل سادة تنظيم البخار.
- لا تندع الشعر الطويل، الأوشحة، ربطات العنق، أن تتدلى فوق المنتج عندما يكون قيد التشغيل.
- لا تضع الملحقات في فرن الميكروويف.
- لا تستعمل المنتج خارج المنزل.
- لا تتحطى كميات الحد الأقصى المشار إليها في الإرشادات المرفقة.
- خزن المنتج بعد أن يبرد تماماً.
- لا تضع الوعاء في الفريزر للتبريد ، استخدم الثلاجة.

• يمكن أن يستعمل هذا المنتج بواسطة الأطفال ممن هم فوق سن الثامنة، في حال توفرت لهم المراقبة والمساعدة الضرورية التي تتيح لهم استعمال المنتج بكل سلامة وأن يدركوا الأخطار التي تكمن وراء الاستعمال الخاطئ. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة للمنتج دون مراقبة ما لم يكونوا فوق سن الثامنة وبوجود مراقبة من شخص بالغ.

#### بالنسبة للتيار الكهربائي

- يجب توصيل المنتج بمقبس كهربائي مؤرّض.
  - صُمم هذا المنتج ليعمل بالتيار الكهربائي المتردد فقط. يُرجى التأكد من توافق القوة الكهربائية المذكورة في لوحةتعريف المنتج مع قوة الشبكة الكهربائية عنك في المنزل.
  - إن أي توصيل خاطئ في التيار الكهربائي يُلغى الضمانة.
  - لا تشد السلك الكهربائي عند فصل المنتج عن المقبس الكهربائي.
  - لا تغمّر المنتج، أو السلك الكهربائي التابع له بأي نوع من السوائل.
  - يُرجى عدم ترك السلك الكهربائي قريباً من الأجزاء الساخنة من المنتج أو يلامسها، أو يمر بالقرب من مصادر حرارية، أو فوق أطراف حادة.
- الاستعمال الخاطئ**
- لا تلمس الغطاء قبل أن يتوقف الجهاز تماماً عن الحركة (زر التوقف)؛
  - انتظر إلى أن يتم خلط المكونات ولم يعد هناك من حركة دوران.



- هذا الجهاز يولد البخار الذي قد يُسبِّب الحروق.  
يرجى التعامل مع الغطاء والسدادة بكل حذر (استعمل القفازات، حاملات القبور، الخ... إذا لزم الأمر). أمسك السدادة من الوسط.
- لا تشغَّل المنتج إذا لم تكن السدادة مركبة في الحاملة الخاصة بها، أو إذا كانت حاملة السدادة غير مركبة على الغطاء. من الضروري أن يتم تشغيل المنتج بحيث تكون السدادة مركبة في حاملتها الموجودة في الغطاء (ما لم يحدد غير ذلك في وصفة الطهي).



**تحذير:** يرجى أخذ الحيطة والحذر من خطر الإصابة بالجروح في حال الاستعمال الخاطئ للمنتج. يرجى توخي الحرص عند استعمال سكاكين شفرات الفرم الحادة الأنصال (F1) والسكين المسننة (F4) عند القيام بتنظيفها، وعند تفريغ الوعاء، فإنها حادة جداً. يرجى الحرص أيضاً إذا سُكِّب السائل الساخن في مُحضر الطعام البارد أن تتطاير مكونات الطعام إلى الخارج بسبب التصادم الساخن المفاجي. توضع شفرة الفرم "الترا" (F1) في الوعاء بعد الاستعمال.

**تحذير:** يرجى توخي الحذر والانتباه وتجنب تسرب الماء إلى الوصلة الكهربائية أثناء التنظيف، أو أثناء التعبئة أو السكب.

**تحذير:** هذا المنتج يطلق البخار الذي قد يُسبِّب الحروق.

**تحذير:** يبقى سطح عناصر التسخين محفوظاً

- بالسخونة بعد الاستعمال.
- يُرجى الحرص على ملامسة مقابض المنتج فقط (الأقفال D2، مقبض الغطاء E2 ومقبض السدادة E1) أثناء التسخين، وإلى أن يبرد المنتج تماماً.
- رجُى مراجعة الإرشادات المختصة بضوابط أوقات التشغيل وضوابط السرعة لكل مُحق من الملحقات وكل برنامج من البرامج.
- يُرجى مراجعة إرشادات التجميع وتركيب الملحقات في المنتج.
- يُرجى مراجعة إرشادات التنظيف والحفظ على المنتج.
- يُرجى دائمًا اتباع إرشادات التنظيف لتنظيف المنتج:

  - افصل المنتج عن التيار الكهربائي.
  - لا تُنظف المنتج إذا كان ساخناً.
  - يُنظف المنتج بواسطة قطعة قماش رطبة أو أسفنجية.
  - لا تغمر المنتج بالماء ولا تضعه تحت الماء الجاري.

**الأسواق الأوروبية فقط:**  
رجُى الحفاظ على المنتج والسلك الكهربائي التابع له بعيداً عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثامنة. يجب أن لا يتخذ الأطفال هذا المنتج مجالاً للعب.

- يمكن أن يُستعمل هذا المنتج بواسطة الأشخاص الذين يُعانون من نقص في قواهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من الأشخاص الذين تقصّهم الخبرةشرط أن تتوفر لهم المراقبة بالإضافة إلى تزويدهم بالمعلومات الضرورية التي تضمن لهم سلامتهم عند استعمال المنتج وأن يدركون الأخطار الناتجة عن الاستعمال الخاطئ.

**السلامة الشخصية**

- يُرجى قراءة إرشادات الاستعمال بعناية قبل استعمال المنتج للمرة الأولى، واحتفظ بها في مكان آمن: لن تتحمل الشركة المصنعة أية مسؤولية عن المنتج في حال الاستعمال الخاطئ، أو عدم الالتزام بارشادات الاستعمال.
  - يُرجى فصل المنتج عن التيار الكهربائي إذا ترك بدون رقابة، أو قبل التركيب أو التنظيف. لا يُسمح للأطفال استعمال هذا المنتج.
  - يجب أن لا يستعمل هذا المنتج بواسطة الأطفال. يُرجى الحفاظ على المنتج والسلك الكهربائي التابع له بعيداً عن متناول الأطفال.
  - لم يُصمم هذا المنتج للاستعمال بواسطة أشخاص (بمن فيهم الأطفال) ومن لا يتمتعون بقدرات بدنية وعقلية كافية، أو إذا كانوا يعانون من نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم تتوفر لهم الرقابة، أو ما لم يُزودوا بالمعلومات والإرشادات الكافية لتشغيل المنتج بواسطة شخص يتحمل هذه المسؤولية من أجل سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد بأنهم لا يعبثون بالمنتج.
  - يُرجى المحافظة على المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
  - عندما يكون الجهاز قيد التشغيل، قد تسخن بعض أجزائه وتصل إلى درجات حرارة عالية (جدار الوعاء من الإستانلس ستيل، الأجزاء القابلة للفصل التابعة للمحور الدوار، الأجزاء الشفافة البلاستيكية من الغطاء والسدادة، الأجزاء المعدنية تحت الوعاء، السلة). قد تُسبب
- أماكن العمل في المطابخ والمحلات التجارية، المكاتب، وما يمكن اعتباره بالبيئة الاحتراافية.
- المزارع.
- الاستعمال من قبل النزلاء في الفنادق، وأماكن السكن الأخرى.
- في غرف الضيوف.



مشکلات	علل	راه حل
"STOP" نمایش داده می شود.	دستگاه ارتعاشات بسیار زیادی را کشف کرده و بررسی کنید که شما در سرعت درست هستید و از لوازم جانبی توصیه شده استفاده می کنید.	و به موقعیت اینمی تغییر داده است.
"SECU" نمایش داده می شود.	سنگونی بیش از حد موتور ناشی از مقدار بیش از حد مواد یا قطعات بسیار سخت یا بزرگ است. بیش از حد بزرگ یا کاربرد بیش از حد بدون اندازه کافی زمان برای سردد کردن.	موتور را سرد کنید (حدود ۰-۳ دققه) و مقدار مواد را در کاسه کاهش دهید.
چراغ نمایشگر نمایش داده می شود.	"SECU" + با + قرمز و چشمک زدن گرم شدن بیش از حد منسورهای درجه حرارت.	با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
چراغ نمایشگر نمایش داده می شود.	النت گرمایش کار نمی کند.	بررسی کنید که بین های قدرت زیر کاسه مسدود نشده اند. اگر این مورد وجود دارد، آنرا تمیز کنید و دوباره سعی کنید. اگر آنها کار نمی کنند، با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
"Err1" + با + قرمز و چشمک زدن چراغ نمایشگر نمایش داده می شود.	عیب الکترونیکی.	با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
"Err3" نمایش داده می شود.	عیب سرعت.	با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
"Err4" نمایش داده می شود.	اشکال ارتباط باکارت الکترونیکی.	با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
"Err8" نمایش داده می شود.	عیب سنسور قفل اینمی	با یک مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
"ntc1" نمایش داده می شود. + چراغ نمایشگر قرمز + چشمک می زند.	سنسور 1 درجه حرارت دیگر کار نمی کند.	با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
"ntc2" نمایش داده می شود. + چراغ نمایشگر قرمز + چشمک می زند.	سنسور 2 درجه حرارت دیگر کار نمی کند.	با مرکز خدمات مجاز تماش بگیرید.
نمایش ساخته های اینمیتی (C5)	فقل نامساعد کاسه با درب	قبل از روشن کردن دستگاه، بررسی کنید که کاسه در بلوك موتور قفل شده و درب به درستی بر روی کاسه قفل شده است. اگر مشکل ادامه دارد، با یک مرکز خدمات تماش بگیرید.
ایمنی کفل سریوش فعل باقی می ماند (خروجی میله) و سریوش را قفل نمی کند.	این دستگاه با تغییر سوئیچ ۱ / ۰ برای تنظیم ربات روی انتظامی کفل سریوش فعل باقی می ماند.	این دستگاه با تغییر سوئیچ ۱ / ۰ به ۰ در کنید و اینمیت سریوش را قفل شده است و با کنید و اینمیت سریوش را در حال پیشرفت خودکار به موقعیت اولیه خود باز می گردد، شما هم اکنون می توانید سریوش را قفل کنید.

هل ما زال المنتج لا يعلم؟  
رجي الاتصال بمرکز خدمة معتمد. (انظر القائمه في كتيب الخدمة)

## بازیافت

از بین بردن بسته بندی و لوازم دستگاه.  
بسهه بندی منصررا" حاوی موادی که برای محیط زیست خطرناک باشد نیست، که می تواند مطابق با مقررات بازیافت دور انداخته شوند. برای دور انداختن دستگاه خود، از دیارتمان مناسب مقامات محلی خود سوال کنید.



• پایان عمر لوازم الکترونیکی یا الکتریکی:

ابتدا حفاظت از محیط زیست!



① دستگاه شما حاوی مواد متعددی است که می تواند احیاء یا بازیافت شود.

● آن را به یک نقطه جمع آوری برای پردازش ببرید.

مشکلات	علل	راه حل
لرزش بیش از حد.	دستگاه بر روی یک سطح صاف قرار نگرفته است، دستگاه پایدار نیست. حجم مواد بیش از حد بالا است. خطای لوازم جانبی.	دستگاه را در سطح صاف قرار دهید. مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید. بررسی کنید که شما از لوازم جانبی توصیه شده استفاده می کنید.
سر و صدای خفیف در طول عملیات	کاربر دستگاه شما ممکن است سر و صدای زندگی دستگاه شما ندارد. پس از چند استفاده و عامل در سرعت کم یا با مواد خاص (برنج تمیز کردن کاربر معمول و قابل جایگزین محروم خواهد شد) (پاراگراف "تمیز کردن دستگاه" را مشاهده کنید).	این یک پذیره مؤقت است، که هیچ عوایقی در مطمئن نباشد که از لوازم جانبی مناسب استفاده می کنید مثلاً از درام F3 از درام F4 پرای روز با مخلوط کردن پاسخ استفاده نمی کنید، از چاقوی F4 استفاده کنید). برای این به توصیه های عملکرد و دستور العمل های عامل در این راهنمای مراجعت کنید.
سر و صدای بیش از حد در طول عملیات	استفاده از لوازم جانبی اشتباه	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید. در برابر درستی قرار نگرفته یا قفل نشده است. مهر و موم را در نگهدار مهر و موم قرار دهید و مونتاژ را به درب وصل کنید. مهر و موم را تغییر دهید، با مرکز خدمات مجاز تامین بگیرید. بررسی کنید که شما از لوازم جانبی توصیه شده استفاده می کنید.
نشت از طریق درب.	حجم مواد بیش از حد بالا.	مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید.
نشت از طریق اسپیندل کاسه.	در برابر درستی قرار داده نشده است. مهر و موم وجود ندارد. مهر و موم قطع شده یا آسیب دیده است. خطای لوازم جانبی.	در برابر درستی قرار نگرفته یا قفل کنید. مهر و موم را در نگهدار مهر و موم قرار دهید و مونتاژ را به درب وصل کنید. مهر و موم تامین بگیرید.
نشت از طریق اسپیندل کاسه.	حلقه قفل (D5) به درستی قفل نشده است.	مهر و موم به درستی قرار داده نشده است. با مرکز خدمات مجاز تامین بگیرید.
تیغه ها به راحتی نمی چرخدن.	قطعات مواد غذانی بیش از حد بزرگ یا سخت است.	اندازه یا مقدار مواد پردازش شده را کاهش دهید. مقداری مایع اضافه کنید.
بوی از موتور.	در صورت استفاده از دستگاه برای اولین بار، یا در صورت اضافه بار موتور با خاطر مقدار موتور را سرد کنید (حدود ۰-۳ دقیقه) و مقدار حد سخت یا بیش از حد بزرگ باشند.	یا در حد بزرگ مواد یا قطعات که بیش از مقدار را در کاسه کاهش دهید.

## ماذا تفعل إذا توقف المنتج عن العمل

مشكلات	علل	راه حل
<p>زمان پخت نشان می دهد، آنها در اغلب موارد پخت و پز رضابت بخش را ممکن می سازند. با این حال شرایط خاص زمان پخت و پز را تحت تاثیر قرار می دهد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اندازه مواد غذایی (برش خورده یا جدا نشده)</li> <li>- مقدار مواد</li> <li>- انواع سبزیجات، رسیده</li> <li>- اگر مواد منجمد باشد یا نباشد ...</li> </ul>		
<p>توقف کننده بخار را در چهت "حداکثر بخار" به طرف خود قرار دهید، این موقعیت موجب صرفه جویی حداکثر حرارت در کاسه برای همه پخت و پز (سوپ، بخار، غیره) می گردد. این موقعیت نیز موجب جلوگیری از پاشیدن در هنگام مخلوط کردن می شود.</p> <p>موقعیت "mini steam" اجازه خارج شدن حداکثر تراکم را می دهد و امکان قوام بهتر ظروف یا سس ها (ریزوتو، پوینینگ، سس، غیره) فراهم می شود</p>	<p>دو شاخه بخار نادرست قرار گرفته یا مفقود شده است</p>	نیخته
<p>مدار آب در کاسه باید با مقیاس (0.7L) مطابقت داشته باشد.</p> <p>شما ممچون می توانید از کتابچه راهنمای کاربر استفاده کنید، با انتخاب درجه حرارت 120 درجه سانتی گراد و زمان پخت و پز بسته به مقدار و نوع مواد، حجم قطعات را کاهش دهید.</p>	<p>مدار مناسب آب در کاسه. قطعات بیش از حد بزرگ.</p>	جريان نا مطلوب بخار
<p>دستورالعمل های شما، شخصی یا گرفته شده در اینترنت ممکن است با دستگاه و لوازم جانبی (مقدار، زمان پخت و پز، لوازم جانبی اشتغال) قبل از شروع دستورالعمل شما متناسب نباشد، مطمئن شوید که از دستورالعمل داده شده برای استفاده از این کتابچه راهنمای کاربر پیروی می کنید.</p>	<p>مشکلات برای موقفیت برخی دستورالعمل های سازگار</p>	مشکلات برای موقفیت برخی دستورالعمل ها
<p>دستگاه به برق وصل نیست.</p> <p>سوئیچ (H) را به سمت موقعیت "0" درستی حرکت دهید.</p>	<p>سوئیچ (H) در موقعیت "0" است.</p> <p>کاسه با درب به درستی قرار نگرفته یا قفل نشده با توجه به نمودار در کتابچه راهنمای دستورالعمل قفل شده است.</p>	دستگاه کار نمی کند.
<p>بررسی کنید که مهر و موم به درستی در نگهدار مهر و موم مونتاژ شده و نگهدار مهر و موم به طور صحیح در درب مونتاژ شده است.</p>	<p>درب کامل مونتاژ نشده است.</p>	درب قفل نمی کند.

FA

- دستگاه نباید غوطه شود. هرگز واحد موتور (A) را زیر آب جاری قرار ندهید. هنگامی که استفاده از آن به پایان رسید، دستگاه را از پریز بکشد. دستگاه را بلاfacسله پس از استفاده تمایز کنید.
- قفل (D2) را فشار دهد سپس مونتاژ کاسه (D) را بلند کنید.
- کاسه را در سطح صاف قرار دهد.
- قفل درب را با چرخش یک ربع در جهت عقربه های ساعت باز کنید. با ذلت درب را بردارید.
- عناصر پوشش (مهر و مو، نگهدار مهر و مو و پوشش) قابل جایگاهی هستند. زمانی که قطعات سرد می شوند، پوشش نگهدار مهر و مو را با لغزاندن دسته در انتهای برس تمیز کردن (I) بین دو عنصر باز کنید و فشار اینتری را برای جاسازی اعمال کنید (شکل 15 را مشاهده کنید).
- مراقب تغییرات سیار تیز (F1) و چاقوی ورز دادن خرد کردن (F4) هنگام تمیز کردن و خالی کردن کاسه باشید، آنها سیار تیز سنتد.
- وقتی قطعات سرد شده اند:
  - اسپیندل معمول (D3)، مهر و مو (D4)، و حلقه قفل (D5) را از هم باز کنید (شکل 13 را رویت کنید).
  - کاسه (D)، اسپیندل معمول (D3)، مهر و مو (D4)، حلقه قفل (D5)، لوازم جانبی (F1) و (F3) و (F4) و (F5)، درپوش تنظیم کننده بخار (E1)، درب (E2) و (E3)، نگهدار مهر و مو (E4)، و مهر و مو (E5) را با استفاده از یک اسفنج و مقداری آب و صابون تمیز کنید.
  - این قطعات مختلف را زیر آب جاری بشویند.
  - در صورت رسوب گذاری کاسه یا عملکرد زیاد، شما می توانید از قسمت زیر اسفنج خیس در صورت لزوم سرمه سفید، یا محصولات تمیز کردن مناسب برای فولاد ضد زنگ استفاده کنید.
  - در صورت گرفتگی چشمگیر، برای چند ساعت در آب و کمی مایع شستشو خیس کنید و در صورت لزوم با خراشاندن به وسیله کاردک (G) یا با سامت ساینده اسفنج پاک کنید.
  - برای تمیز کردن واحد موتور (A) از یک پارچه مرطوب استفاده کنید. به ذلت خشک کنید.

این برنامه پس از آن در حالت توقف است و شما امکان شروع مجدد را با فشار دادن بر "Start" خواهید داشت. اگر شما برنامه انتیاب را انتخاب کرده باشید و اگر می خواهید آن را الغو کنید، به مدت ۲ ثانیه دکمه "Stop" را فشار داده و نگاه دارید.

4. هنگامی که برنامه به پایان رسید، دستگاه ۳ بوق می زند.

5. دکمه قفل (D2) را فشار دهید و سپس مونتاژ کاسه (D) را بردارید (شکل 12 را رویت کنید).

#### عملکرد توربو / پالس

1. از پالل کنترل (B) به سترسی ممستقیم به عملکردهای (B5) "توربو" و "پالس" استفاده کنید. برای استفاده در حالت توربو (سرعت حداکثر در سترسی ممستقیم)، فقط انتخابگر "توربو" را فشار داده و نگه دارید. برای کمک به شما، صفحه نمایش و پس از آن زمان در حال استفاده (C3) را نشان می دهد. برای استفاده از پالس (عملکرد متاپلوب)، عملکرد را فقط با فشار دادن بار انتخابگر "Pulse" فعل کرده و توقف کنید. در اینجا نیز، با نشان دادن زمان در حال کار کردن، صفحه LCD به شما کمک می کند. هنگام شروع عملکرد، شما با فشار بر دکمه "Stop" امکان توقف دستگاه را در هر زمان دارید. پس از آن که عملکرد در حالت مکث است، شما با فشار مجدبیر دکمه "Start" امکان شروع دوباره را دارید.

#### مهم: "درست کردن دستور العمل اینمن دستگاه شما" (SECUE)

متوقف کند، مناسب با آن ادامه اگر SEQUE دهد:

- دستگاه متصل به برق را رها کنید، از فشار دادن بر روی سوئیچ 1/0 "خودداری" کنید.
- لطفاً به توصیه ها در دستور العمل مراجعه کنید و استفاده از دستگار را ادامه دهید (بارگاراف "اولین استفاده" را روایت کنید؛ مقدار مواد/زمان آماده سازی غذا/انواع لوازم جانبی).

• اجازه دهید موتور به مدت نیم ساعت سرد شود.

- با کلیک کردن بر روی دکمه "شروع/توقف/تنظیم مجدد" به مدت دو ثانیه دستگاه را دوباره راه اندازی کنید (B7) در دستور العمل را روایت کنید.

دستگاه شما آنقدر این مراحل را انجام داده است.

- المنتج الان قادر است این مراحل را انجام داده است.
- دستگاه شما آماده نیست تا دوباره راه اندازی کنید (B7) در کسب اطلاعات بیشتر، بخش خدمات مشتری خلخ شده است (جزئیات خلخ خود را رویت کنید (جزئیات در جزویه ضمانت را روایت کنید).

1. به طور مستقیم بر روی انتخابگری که پارامتر مورد نظر را ارائه می دهد فشار دهید، برای مثال انتخابگر سرعت (B2) یا انتخابگر درجه حرارت پخت و پز (B3) یا انتخابگر زمان (B4). پارامتر منتخب روی صفحه نمایش چشمک می زند (C1-C2-C3).



2. سپس با استفاده از انتخابگر +/-(B6) تنظیمات را ماهانگ کنید. بنا به دلایل اینی، ممکن نیست که بدون تنظیم زمان پخت و پز درجه حرارت را منظم کنید.



3. هنگام به پایان رساندن وارد کردن تمام پارامترها، دکمه "start" را فشار دهید. هنگامی که دستگاه از حالت پخت و پز استفاده می کند، چراغ نشانگر قرمز (B3) روشن می شود تا به شما اطلاع دهد که پخت و پز شروع شده است. وقتی برنامه شروع شد، شما با فشار بر دکمه "Stop" امکان توقف دستگاه را در هر زمان دارید.



دستگاه شما، به صورت استاندارد، با حفاظت موتور الکترونیکی برای تضمین طول عمر مجهز شده است. با این حفاظت اینمیتی الکترونیکی در برابر استفاده نادرست، در این صورت، موتور به درستی محافظت می شود.



در شرایط پسیار شدید استفاده، یا در آمد شخصی (اینترنت و غیره ...)، عدم رابطه توصیه های جزوه (بخش "راه اندازی") مقادیر بیش از حد بزرگ و / یا استفاده طولانی غیر طبیعی و / یا ترتیب دستور العمل های بیش از حد نزدیک را مشاهده کنید، حفاظت الکترونیکی برای حفظ موتورفعال می شود. "SECU" در این مورد، واحد توقف متوقف می شود و نمایش "SECU" در پالل کنترل LCD ظاهر می شود تا نشان دهد که دستگاه به طور لحظه ای قابل استفاده است. بر روی پالل کنترل نشان داده شود و دستگاه شما کار کردن را

## استفاده از سبد بخار

زمان پخت و پز فقط با هدف مطلع سازی می باشد؛ در اغلب موارد مواد غذایی به درستی پخته خواهد شد.

- هنگام استفاده از درپوش بخار با "بخار کم" روبروی به حاضر داشته باشید از درپوش بخار به شکلی استفاده کنید که "maxi steam" (a) آن به سمت شما باشد.

اگر غذا خوب پخته نشده باشد، شما می توانید زمان پخت اضافی تنظیم کنید.

با این حال، شرایط خاصی ممکن است پخت و پز را تحت تأثیر قرار دهد:

- اندازه سبزیجات (برش خورده یا برش نخورده)
- مقدار مواد در سبد
- نوع سبزیجات، تازگی آنها
- مقدار آب در کاسه، که با اندازه (۷۰ لیتر) مطابقت داشته باشد.

شما همچنین می توانید از حالت دستی با انتخاب  $C^{\circ}$  و زمان پخت و پز با توجه با مقدار و نوع مواد درجه حرارت استفاده کنید؛ جدول زیر را رویت کنید.

زمان پخت و پز با بخار			
مواد	زمان پخت و پز برآورد مقدار (حداکثر)	برنامه	
P1	۲۰ دقیقه	کدو سبز ۸۰۰ گرم	
P1	۲۵ دقیقه	زردک ۸۰۰ گرم	
P1	۲۵ دقیقه	قسمت سفید تره فرنگی ۸۰۰ گرم	
P1	۲۵ دقیقه	بروکلی ۵۰۰ گرم	
P1	۱۵ دقیقه	ماهی ۶۰۰ گرم (با خمیر برشته)	
P2	۳۰ دقیقه	سبب زمینی ۱ کیلوگرم	
P2	۳۰ دقیقه	هویج ۱ کیلوگرم	
P2	۳۰ دقیقه	لوبیا سبز ۸۰۰ گرم	
P2	۲۰ دقیقه	گوشت سفید ۶۰۰ گرم (با خمیر برشته)	

برخی دستورالعمل ها ممکن است به دلیل ظاهر شدن حباب، به خصوص هنگام استفاده از سبزیجات منجمد به طور غیرمنتظره لبریز شود. در این مورد، شما باید حجم را متناسب با آن کاهش دهید.

FA

P3	خورش	P2	خورش	P1	خورش	P2	سوب	P1	سوب	سس	
										برنامه های خودکار	
F1 <sup>9</sup> F2 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup> F2 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup> F2 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup> F2 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup>	F1 <sup>9</sup>		
V2  80) °C 95 100 تا °C (°C)	V1  80) °C 95 100 تا °C (°C)	V3  غير °C 130 (قابل تنظیم)	سرعت 7 به سرعت 10 برای ثانیه 30	سرعت 7 به سرعت 10 برای ثانیه 30	10 پالس و سرعت برای 2 دقیقه	V6 (V8 تا V2)  50) °C 70 100 تا °C (°C)	سرعت 6 به سرعت 8 برای ثانیه 40	سرعت 5 به سرعت 8 برای ثانیه 40	سرعت زمان (قابل تنظیم)	سرعت «پیشفرض» (قابل تنظیم)	درجه حرارت «پیشفرض» (قابل تنظیم)
10) 22 دقیقه دقيقة تا 2 ساعت (	10) 45 دقیقه دقيقة تا 2 ساعت (	2) 5 دقیقه دقيقة تا 15 دقيقة (	20) 45 دقیقه دقيقة تا 60 دقيقة (	20) 40 دقیقه دقيقة تا 60 دقيقة (	5 دقیقه دقيقة تا 40 دقيقة (	V4  45 دقیقه دقيقة تا 10 ثانية روشن 10/ V3 / در 20/ ثانية خاموش	45 دقیقه دقيقة تا 5 ثانية روشن 5/ در 10/ ثانية خاموش	45 دقیقه دقيقة تا 10 ثانية روشن 10/ V3 / در 20/ ثانية خاموش	45 دقیقه دقيقة تا 5 ثانية روشن 5/ در 10/ ثانية خاموش	"عملکرد فقدان" گرم کردن در پایان برنامه	سرعت موتور در سطح گرم نگه داشت

دسر	P3	شيرینی	P2	شيرینی	P1	شيرینی	P2	پز	ظرف بخار	ظرف بخار	ظرف بخار	
											برنامه های خودکار	
F1 <sup>9</sup> F2 <sup>9</sup> F3 <sup>9</sup> F4 <sup>9</sup>			F4 <sup>9</sup>				F5					
V4 (V8 تا V2)  50) °C 90 110 تا °C (°C)		سرعت 3 برای 1 دقیقه 40 ثانية و پیش سرعت 9 برای 2 دقیقه 3	سرعت 5 برای 1 دقیقه 30 ثانية و پیش سرعت 6 برای 2 دقیقه 2	سرعت 5 برای 2 دقیقه 30 ثانية	°C 100 (غير قابل تنظیم)	°C 100 (غير قابل تنظیم)				سرعت «پیشفرض» (قابل تنظیم)	درجه حرارت «پیشفرض» (قابل تنظیم)	
60) 15 دقیقه دقيقة تا 5 ثانية (	30 دقیقه و 30 ثانية دقيقة 15 ثانية و 40 ثانية تا 30 ثانية و 40 ثانية (	30 دقیقه و 30 ثانية دقيقة 30 ثانية و 30 ثانية تا 30 ثانية و 30 ثانية (	30 دقیقه و 30 ثانية دقيقة 30 ثانية و 30 ثانية تا 30 ثانية و 30 ثانية (	2 دقیقه و 2 ثانية دقيقة 30 ثانية و 2 ثانية تا 1 دقیقه و 60 ثانية (	30 دقیقه دقيقة تا 1 دقیقه و 60 ثانية (	30 دقیقه دقيقة تا 1 دقیقه و 60 ثانية (	45 دقیقه دقيقة تا 45 دقیقه	45 دقیقه دقيقة تا 45 دقیقه	سرعت زمان (قابل تنظیم)	عملکرد فقدان گرم کردن در پایان برنامه		
V4			40 دقیقه	40 دقیقه						سرعت موتور در سطح گرم نگه داشت		

## استفاده از دستگاه

دستگاه را به برق وصل نکنید، سوئیچ (H) را در ۱ تنظیم کنید، و صفحه نمایش (C) همه تنظیمات را در "۰" نشان می‌دهد.  
**(شکل ۹ ۹ رویت کنید).**

### حالات برنامه خودکار

6. در پایان برنامه؛ سس، سوب، خورش P2 و P3، غذاهای بخارپز و دسر خامنه‌ای، دستگاه برای حفظ حالت گرم به مدت ۵۴ دقیقه به طور خودکار تغیر می‌کند تا آمده سازی برای مصرف مهیا شود. و در برنامه سس، خورش P2 و P3، دسر و شیوه راهنمای کاربر، موتور دستگاه در یک سرعت خاص، به منظور حفظ جیران خسارتهای جلوگیری از چسبیدن به انتهای کاسه کار می‌کند. برای توقف حفظ حالات گرم، فقط دکمه "Stop" (B7) را فشار دهید. اگر شما درب را باز نکنید، قفل (D2) را فشار دهید یا کاسه را بردارید، نگه داشتن حالت گرم به طور خودکار متوقف خواهد شد.  
در پایان برنامه‌های سس، آرام پز P3 و P2 و دسر خامنه‌ای؛ در طول عملکرد حفظ حرارت، موتور، کار کردن را ادامه می‌دهد به طوری که مواد به پایین کاسه نچسبند.  
در پایان ورز دادن در برنامه‌های شیرینی P1 و P2، دستگاه به حالت "ور آمدن خمیر" در C ۳۰° به مدت ۴ دقیقه تغیر می‌کند تا جم خمیر افزایش یابد. اگر شما درب را باز نکنید، قفل (D2) را فشار دهیل یا کاسه را بردارید، دستگاه حالت مکث را تغیر می‌دهد و شما با دوباره فشار دادن بر "Start" امکان شروع مجدد را دارید. اگر مایل به توقف حالت می‌باشید، دکمه "Stop" را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید.
7. قفل (D2) را فشار دهید و سپس مونتاژ کاسه (D) را بردارید (شکل 12 را رویت کنید).
- وقتی برنامه خودکار شروع می‌شود، شما با فشار بر دکمه "Stop" امکان توقف دستگاه را در هر زمان دارید. برنامه خودکار سپس در حالت مکث می‌باشد، شما با دوباره فشار دادن بر دکمه "Start" امکان شروع مجدد را دارید. اگر شما برنامه اشتباه انتخاب کرده باشید و می‌خواهید آن را لغو کنید، دکمه "Stop" را به مدت ۲ ثانیه فشار داده و نگه دارید.
1. برنامه انتخاب خود (B1)، را فشار دهید، یک مثلث بر روی صفحه نمایش (C4) در برنامه منتخب ظاهر می‌شود. در مورد برنامه سوب، خورش و شیرینی، فشار دادن پی در پی، شما را به مجموعه برنامه‌های مختلف می‌برد.
2. تنظیمات از قبیل برنامه ریزی شده را می‌توان برای تغیر زمان دستور غذا (بسته به انتخاب دستور غذا، مواد و مقادیر آمده) توصیف کرد. انتخاب‌گر سرعت (B2) یا انتخاب‌گر درجه حرارت پخت و پز (B3) یا انتخاب‌گر زمان (B4) را فشار دهید، تنظیمات منتخب در صفحه نمایش چشمک می‌زنند (C1-C2-C3).
3. تنظیمات را با استفاده از انتخاب‌گر +/- تنظیم کنید (B6).
4. هنگامی که اصلاح تمام تنظیمات شما به پایان رسید، دکمه "Start" (B7) را برای شروع برنامه فشار دهید. هنگامی که دستگاه شما از حالت پخت و پز استفاده می‌کند، چرا غشانگر قرمز (B3) روشن می‌شود تا به شما اطلاع دهد که پخت و پز شروع شده است.
5. هنگامی که برنامه به پایان رسید، دستگاه ۳ بوق می‌زند.



زمان (B4) را فشار دهید، تنظیمات منتخب در صفحه نمایش چشمک می‌زنند (C1-C2-C3).



پخت و پز با بخار  
(در برنامه P1 بخار کم / در P2 بخار زیاد).



سوس



سوپ  
(در برنامه P1 سوس / لوته / آرد پودر شده  
(P2)



دوسر

نان شیرینی  
(در برنامه P1 نان / P2 نان بنچیک / P3 کیک)



خوش  
(در برنامه P1 سبزیجات آبگوشت / P2  
خوش / P3 / خوراک ریساتو)



#### انتخاب تنظیمات سفارشی:

افزایش سرعت ، درجه حرارت پخت و  
پز و مدت زمان. سرعت ، درجه حرارت  
پخت و پز و مدت زمان.



انتخاب سرعت موتور ، ۲ سرعت متناسب و ۱۰  
سرعت مداوم متولی.



انتخاب سرعت پخت و پز. از ۳۰ درجه تا ۱۳۰  
درجه سانتی گراد گرم کردن چراغ نشانگر:  
روشن می شود وقتی که پخت و پز شروع می  
شود و خاموش می شود زمانی که نمای داخل  
کاسه زیر ۵ درجه سانتی گراد می افتد.



این دکمه دارای ۳ عملکرد است:  
- "اعتبار سنجی" از انتخاب برنامه  
خودکار شما یا پارامترهای انتخاب شده  
در متن راهنمای استفاده (سرعت، پخت  
و پز، نمای، زمان).  
- "مکث" در طول استفاده، به محض  
اینکه دستگاه روشن شده باشد.  
- "تنظیم مجدد" پارامترهای منتخب در  
دستگاه با فشار دادن برای ۲ ثانیه.



انتخاب زمان عملیات. از ۵ ثانیه تا ۲ ساعت.



انتخاب عملکردهای توربو (حداکثر سرعت در  
دسترسی مستقیم) و پالس (عملیات متناسب)  
بدون استفاده از تنظیمات دیگر.



#### نکاتی برای استفاده:

دستگاه شما با یک ریزپردازنده نصب شده است که ثبات خود را کنترل و تجزیه و تحلیل می کند. در صورت بی ثباتی، سرعت  
چرخش موتور به طور خودکار کاهش می یابد، در صورتی که این بی ثباتی ادامه یابد، موتور متوقف خواهد شد و بر روی  
صفحه نمایش داده خواهد شد.

"STOP".

- بررسی کنید که مقدار مواد بیش از حد بزرگ نباشد و سرعت استفاده شده درست می باشد.
- بررسی کنید که شما از لوازم جانبی توصیه شده استفاده می کنید.
- سپس دستگاه خود را به طور معمول راه اندازی مجدد کنید.

- مواد را در کاسه یا سبد بخار ترکیب کنید.
- درب را با هم تنراز کردن دو مثُلث در کاسه (D) قرار دهید (شکل 5 را رویت کنید)، درب را با فشار دادن در جهت عقربه های ساعت قفل کنید (شکل 6 رویت کنید).
- در پوش رگولاتور بخار (E1) را در درب قرار دهید، ۲ موقعیت ممکن می باشد: بخار کم (a) یا بخار زیاد (b).
- تنظیم بخار کم اجازه می دهد تا حداکثر مقدار تراکم آزاد شود و به همین دلیل توصیه می شود که ظروف و سنس را با هماهنگی بهتر (ریستو، دسر خامه ای، سس، غیره) تهیه کنید.
- تنظیم بخار زیاد اجازه می دهد تا حداکثر میزان حرارت و بخار در کاسه برای انواع بخار پز (سوب، غیره) ایجاد شود این تنظیم از پاشیدن در طول مخلوط کردن نیز جلوگیری می کند.



- کاسه (D) را در واحد موتور (A) قرار دهید تا زمانی که "کلیک" را بشنود (شکل 8).
  - دستگاه فقط زمانی شروع به کار می کند که کاسه و درب به درستی قرار داده شده و در واحد موتور قفل شده باشند.
- در صورت قرار گرفتن یا قفل شدن نادرست (پس از رویت 10.1 و 10.2)، نوک (⑥) هنگام قعال شدن عملکرد شروع به چشمک زدن می کند.

- دستگاه شما دارای ۲ حالت برای کار کردن است:
  - حالت برنامه خودکار
  - سرعت، درجه حرارت پخت و پز و مدت زمان پیش برنامه ریزی شده برای درست کردن سس، سوب، خوش، غذاهای بخار باز، شیرینی و دسر به صورت خودکار.
- **شیوه دستی:**
- تنظیمات سفارشی پارامترهای سرعت، درجه حرارت پخت و پز و مدت زمان برای استفاده در راحتی شما.

- دستگاه شما مجہز به قفل ایمنی درب می باشد
- درب در امن است هر باز که دستگاه شروع به کار کرده است.
- این ایمنی از باز شدن درب در طول آماده سازی دستور العمل جلوگیری می کند (شکل 16).
- تلاش نکنید که درب را با زور باز کنید هنگامی که آن قفل شده است.

- این سیستم ایمنی منتشر شده است هر زمان که دستگاه خاموش است.
- اگر درجه حرارت بالاتر از 50 درجه سانتی گراد یا برابر با آن و سرعت پیش از 5 یا برابر با آن انتخاب کرده اید، پس از آن یک شمارش معکوس 10 ثانیه ای بر روی پتل کنروں صفحه نمایش LCD ظاهر می شود (شکل 17).
- باز کردن درب فقط در پایان شمارش معکوس ممکن خواهد بود

نصب کاسه، لوازم جانبی آن و مومنتاز درب

- قبل از استفاده برای اولین بار، تمام اقلام (D, E, F, G) به غیر از واحد موتور (A) را در آب گرم و صابون بشویند.
- کاسه شما (D) به ظور شهیل تمیز کردن با یک اسپیندل قابل جدا شدن (D3) نصب شده است.
- اطمینان حاصل کنید که تمام بسته بندی قبل از استفاده برداشته شده است، به ویژه محافظ واقع در بیان کاسه (D) و واحد موتور (A).

- مهر و موم (E4) را در نگهدار مهر و موم (E3) قرار دهید (شکل 1 را رویت کنید)، مومنتاز را به درب (E2) کلیپ کنید (شکل 2 را رویت کنید).

- مهر و موم (D4) را در اسپیندل معکول (D3) قرار دهید. مومنتاز را در پایه کاسه با حلقة قفل (D5) قفل کنید (شکل 3 را رویت کنید).

- لوازم جانبی منتخب را در کاسه قرار دهید:
  - لوازم جانبی (F3, F2) با (F4) F1 با (F4) را به اسپیندل معمولا در پایین کاسه (شکل 4.1 را رویت کنید)، سبد بخار در داخل کاسه (F5)، شکل 4.3 را رویت کنید، از قبل مراقب باشید که مخزن ۰,۷ لیتری را با مایع آماده سازی (آب، سس...) پر کنید (شکل 4.2 را رویت کنید).

دستگاه شما با یک سوچیج ۰/۱ نصب شده است، سوچیج را در ۱ قرار دهید. (شکل ۹ را رویت کنید)  
لوازم جانبی ذیل با دستگاه شما را ازه می شود:

۱	آب پختن / خرد کردن	F1	مخلوط کردن سوپ مخلوط کردن کپوت خرد کردن سبزیجات خرد کردن گوشت خرد کردن ماهی	۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۲	۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۵ ثانیه ۳۰ ثانیه ۱۵ ثانیه	۲.۵ لیتر ۱ کیلوگرم ۱ کیلوگرم ۱ کیلوگرم ۱ کیلوگرم	--> ۱۰۰°C --> ۱۰۰°C --> ۱۰۰°C --> ۱۰۰°C --> ۱۰۰°C
	از این لوازم جانبی برای میز کردن محصولات سخت استفاده نکنید، از تیغه، وزد دادن F4 / خرد کن استفاده						
۲	مخلوط کردن	F2	غذاهای سرخ شده خورش خوراک ریساتو	۳ ۱ ۲	۵ دقیقه ۴۵ دقیقه ۲۲ دقیقه	۵۰۰ گرم ۲.۵ لیتر ۱.۵ لیتر	۱۳۰°C 95°C 95°C
	غذاهایی را که خود را بین مراحل پختن آماده سازی (خوراک ریساتو، سوپ)،						
۳	نمودن	F3	هم زدن سفیده تخم مرغ، سنس مایونز، خامه زده شده سن ها، خامه ها سبز زمینی های خرد شده پولنتا	۶ ۶ ۶۴ ۶۶ ۵۴	۱۰/۵ دقیقه ۵/۲ دقیقه ۱/۲۰ دقیقه ۱ دقیقه ۱/۱۶ دقیقه	۷ اکثر ۰.۵ لیتر ۱ لیتر ۱ لیتر ۱ لیتر	60-90°C 90°C
	خوراک راتنوتی، ترشی چلت نی، حبوبات (تنظیمات: دفترچه نسخه غذا بررسی کنید)						
۴	تیغه و زدن/ خرد کردن	F4	ورز دادن خمیر نان سفید، ورز دادن شیرینی کوچک خرد نان، خمیر بیسکویت، نان ویژه ورز دادن خمیر ور آمده (نان بینچیک، کوکاوف، غیره) مخلوط کردن خمیرهای سبک (مخلوط کیک، غیره)	۵ ۵ + ۵ + ۳ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ۱۰	۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱ دقیقه ۲ دقیقه ۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱ دقیقه ۲ دقیقه ۱ دقیقه ۱ دقیقه ۱ دقیقه ۱ دقیقه	۱.۲ کیلوگرم ۱ کیلوگرم ۰.۸ کیلوگرم ۱ کیلوگرم ۰.۶ کیلوگرم ۰.۶ کیلوگرم ۱۶ تا حد اکثر ۱.۵ لیتر	
	ورز دادن خمیر نان سفید، ورز دادن شیرینی کوچک خرد نان، خمیر بیسکویت، نان ویژه ورز دادن خمیر ور آمده (نان بینچیک، کوکاوف، غیره) مخلوط کردن خمیرهای سبک (مخلوط کیک، غیره)						
۵	سبله بخار	F5	بخارپز سبزیجات، ماهی یا گوشت سوپ با تکه ها	۱۲	۴۰/۲۰ دقیقه ۳ دقیقه	۱ کیلوگرم ۲.۵ لیتر	100°C 100°C
۶		E1	a دیویش برای تنظیم خارج شدن بخار تنظیم بخار زیاد = (a) = بخار پز کردن. تنظیم بخار کم = (b) = ریساتو، دسر خامه ای، سنس، غیره ...		a b		

این لوازم جانبی نیز با زمینه چسبناک برای تسهیل حمل در طول استفاده در حال درست کردن آماده سازی نصب می شود.

تشکر از شما برای انتخاب دستگاهی که به طور انحصاری برای آماده سازی مواد غذایی در داخل خانه در نظر گرفته شده است.

با خواندن کتابچه راهنمای دستورالعمل، شما توصیه هایی برای استفاده پیدا می کنید، و پیشنهاد دستگاه خود را مشاهده می کنید: تهیه سس، سوپ، خورش، غذاهای بخار پز، شیرینی و نسر.



## شرح لوازم خانگی:

D	مونتاز کاسه	A	واحد موتور
D1	کاسه فولاد ضد زنگ	B	پائل کنترل
D2	قفل	B1	دکمه های انتخاب برنامه به صورت خودکار
D3	اسپیندل معمول قابل جدا شدن	B2	منتقی السرعة
D4	مهر و موم	B3	انتخابگر دمای پخت و پز و / یا نشانگر نور
D5	حرارت	B4	انتخابگر زمان کار کردن
E	مونتاز درب	B5	انتخابگر پالس/توربو
E1	دروپوش رگولاتور بخار	B6	-/+
E2	درب	B7	دکمه شروع/توقف /تنظیم مجدد
E3	نگهدار مهر و موم	C	LCD صفحه نمایش
E4	مهر و موم	C1	نمایش سرعت
F	لوازم جانبی	C2	نمایش درجه حرارت
F0	جعبه ذخیره سازی لوازم جانبی	C3	نمایش زمان
F1	تیغه برش بسیار نیز	C4	نمایش انتخاب برنامه
F2	میکر	C5	نمایش نشانگر اینمنی
F3	همزن		
F4	چاقو برای ورز دادن / خرد کردن		
F5	سمبل بخار		
G	کاردک		
H	سوئیچ 1/0 برای خاموش کردن منبع برق دستگاه شما		
I	بررس تمیز کردن		

## اطلاعات فنی دستگاه:

قدرت: ۱۵۵۰ وات ( ۱۰۰۰ وات: المتن گرمایش / ۵۵۰ وات: موتور )

محدوده درجه حرارت: ۳۰ ° تا ۱۳۰ °  
قابل تنظیم در مراحل ۵

محدوده طول مدت کار کردن : من ۵ ثانیه تا ۲ ساعت  
قابل تنظیم در تمام مراحل از ۵ دقیقه تا حداقل ۱ دقیقه

تعداد سرعت: ۱۲ - سرعت متناسب :

سرعت ۱ ( ۵ ثانیه روشن / ۲۰ ثانیه خاموش ).

سرعت ۲ ( ۱۰ ثانیه روشن / ۱۰ ثانیه خاموش ).

۱ - سرعت مداوم تدریجی  
( با سرعت ۳ تا ۱۲ )

- غیره) در حال کار کردن دستگاه روی کاسه قرار بگیرد.
- هرگز لوازم جانبی را در مایکروویو قرار ندهید.
  - از دستگاه خارج از منزل استفاده نکنید.
  - هرگز از میزان حد اکثر مقدار مواد مشخص شده در دستورالعمل فراتر نزدیک نمایید.
  - دستگاه را هنگامی که سرد شده است ذخیره کنید.
  - کاسه را برای خنک شدن در فریزر قرار ندهید، از یخچال استفاده کنید.

### خدمات پس از فروش

- برای اینمنی خود، از لوازم جانبی و سایر قطعات یدکی به غیر از جاهانی که توسط مرکز پس از فروش مجاز ارائه شده باشد استفاده نکنید.
- در صورت درست کار نکردن دستگاه، آسیب دیدن سیم برق یا پریز، از دستگاه استفاده نکنید. برای جلوگیری از هر گونه خطر، سیم باید توسط یک مرکز خدمات مجاز جایگزین شود (لیست موجود در دفترچه ضمانت را رویت کنید).
- هر گونه مداخله غیر از تمیز کردن و نگهداری معمول توسط مشتری باید توسط مرکز خدمات مجاز انجام شود.
- با فهرست "چه کار باید کرد اگر دستگاه شما کار نمی کند" در پایان کتابچه راهنمای دستورالعمل مشاوره کنید.

## استفاده نادرست

- از دست زدن به درب قبل از رسیدن به توقف کامل دستگاه (دکمه توقف) خودداری کنید؛ صبر کنید تا مواد غذایی مخلوط شده بیش از این نمی چرخد.
- همیشه مواد جامد را قبل از افزودن مواد مایع در کاسه بریزید، بدون فراتر رفتن از حد مشخص شده حداکثر در داخل کاسه (با رویت شکل 11)، اگر کاسه خیلی پر شده باشد، آب جوش ممکن است به بیرون ریخته شود.
- لطفاً" توجه داشته باشید، در برنامه پخت و پز با بخار، سطح ۰,۷ لیتر آب حفظ شود (شکل 4.2 را رویت کنید).
- از قرار دادن انگشتان خود یا هر شئی دیگر در کاسه در حالی که دستگاه کار می کند اکیداً خودداری کنید.
- از کاسه به عنوان ظرف برای (ذخیره سازی، منجمد کردن، ضد عفونی کردن) استفاده نکنید.
- دستگاه را در یک سطح کار ثابت، مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.
- دستگاه را نزدیک دیوار یا کمد قرار ندهید؛ بخار تولید شده ممکن است به المنت آسیب برساند.
- دستگاه خود را نزدیک منبع حرارت (وسیله گرم کردن، لوازم خانگی، غیره) قرار ندهید.
- از پوشش درب با پارچه ای برای شستشوی ظرف یا موارد دیگر خودداری کنید، تلاش نکنید که سوراخ درب را مسدود کنید، از درپوش رگلاتور بخار استفاده کنید.
- اجازه ندهید مو، روسربی، کراوات،

باشند یا دستورالعمل های استفاده اینم از دستگاه را دریافت کرده باشند و خطرات بالقوه آن را درک کنند.

- ی این دستگاه ممکن است توسط کوکان حافظ ۸ سال مورد استفاده قرار گیرد، تا زمانی که آنها تحت نظارت باشند و دستورالعمل در مورد استفاده اینم از دستگاه داده شده باشد و از خطرات دست اندکار به طور کامل آگاه باشند. تمیز کردن و نگهداری توسط کاربر می باید توسط کوکان بدون نظارت انجام شود مگر آنکه آنها حافظ ۸ سال و توسط یک بزرگسال تحت نظارت باشند.

## اتصال به منبع برق

- دستگاه باید به پریز برق زمینی وصل شده باشد.
- دستگاه فقط برای کار با جریان متناوب طراحی شده است. بررسی کنید که ولتاژ برق نشان داده شده در صفحه مشخصات دستگاه با نصب و راه اندازی برق مطابقات داشته باشد.
- هر گونه خطأ در اتصال منجر به لغو گارانتی خواهد شد.
- از کشیدن سیم برق برای قطع اتصال دستگاه اکیداً خودداری کنید.
- از غوطه ور کردن دستگاه، سیم برق یا پریز در هرگونه مایع خودداری کنید.
- سیم برق نباید هرگز در نزدیکی یا در تماس با قطعات داغ دستگاه شما، در نزدیکی یک منبع گرمای یا بر روی لبه تیز قرار داده شود.

و دیگر محیط‌های مسکونی.  
- در محیط اتاق مهمان.

#### • دستگاه شما بخار را



بیرون می‌دهد که می‌تواند موجب سوختگی شود. به و درپوش با احتیاط دست بزنید (از دستکش، دستگیره وغیره در صورت لزوم استفاده کنید). به درپوش با بخش مرکزی آن دست بزنید.

• اگر مهر و موم در نگهدار مهر قرار داده نگرفته باشد یا اگر نگهدار مهر و موم بار روی درب مونتاژ نشده باشد، از به کار انداختن دستگاه اکیدا" خودداری کنید. ضروری است که دستگاه را با درپوش قرار داده شده در سوراخ درب به کار اندازید (مگر اینکه به طور خاص در دستور العمل قید شده باشد).

هشدار: از خطر آسیب در صورت استفاده نادرست از دستگاه آگاه باشید. مراقب چاقوهای تیغه تیز برش



(F1) و چاقوی اره ای (F4) هنگام تمیز کردن آنها و خالی کردن کاسه باشید، آنها بسیار تیز هستند. دقت کنید اگر مایع داغ در پردازندۀ مواد غذائی می‌ریزید چون می‌تواند به علت جوش ناگهانی از دستگاه به بیرون ریخته شود.

تیغه خرد کن چند تیغه (F1) را پس از استفاده در کاسه قرار دهید.

هشدار: مراقب باشید تا از هرگونه نشست در اتصال در طول تمیز کردن، پر کردن یا ریختن جلوگیری شود.

هشدار: بخار منتشر شده در دستگاه می‌تواند موجب سوختگی شود.

هشدار: سطح المنت گرمایش منوط به گرمای باقی مانده پس از استفاده می‌باشد.

- مطمئن شوید که در طول گرم کردن تا سرد شدن کامل فقط به دسته محصول خود (قف D2، دسته درب E2 و دسته درپوش (E1) دست می‌زنید.

• برای تنظیم زمان کار کردن و تنظیمات سرعت هر یک از لوازم جانبی و هر برنامه به دستورالعمل مراجعه کنید.

• برای مونتاژ و نصب لوازم جانبی در دستگاه به دستورالعمل مراجعه کنید.

• برای تمیز کردن و حفظ دستگاه خود به دستورالعمل مراجعه کنید.

• همیشه برای تمیز کردن دستگاه خود دستورالعمل تمیز کردن را دنبال کنید:  
- سیم برق دستگاه را از پریز بکشید.  
- دستگاه را در حالی که داغ است تمیز نکنید.

- با پارچه یا اسفنج مرطوب تمیز کنید.  
- هرگز دستگاه را در آب غوطه ور نکنید  
یا در زیر آب جاری قرار ندهید.

#### فقط بازارهای اروپائی:

• دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگه دارید.  
کودکان نباید از دستگاه به عنوان یک اسباب بازی استفاده کنند.

• این دستگاه ممکن است توسط افراد با ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی یا نداشتن تجربه یا دانش ناکافی مورد استفاده قرار گیرد، تا زمانی که آنها تحت نظارت

## السلامة الشخصية

### گرمایش نشان می دهد که خطر سوختگی وجود دارد.

- درجه حرارت سطوح در دسترس ممکن است بالا باشد هنگامی که دستگاه در حال کار کردن است. استفاده از یک تایмер خارجی یا سیستم کنترل از راه دور جدگاهه برای به کار انداختن دستگاه در نظر گرفته نمی شود.
- در صورتی که دستگاه شما به درستی کار نمی کند، اگر آسیب دیده یا سیم برق یا پریز خراب شده است، از استفاده از دستگاه خودداری کنید. برای اجتناب از هرگونه خطر، سیم را توسط مرکز خدمات مجاز تعویض نمائید (با رویت لیسات موجود در دفترچه ضمانت).
- دستگاه نباید غوطه ور شود. از قرار دادن واحد موتور (A) زیر آب جاری اکیداً خودداری کنید.
- این دستگاه منحصرأ برای استفاده داخلی در نظر گرفته شده است در ارتفاع زیر ۲۰۰۰ متر. سازنده نباید هر مسئولیتی را قبول کند و در صورت استفاده تجاری یا نامناسب یا عدم پیروی از دستورالعمل ها حق لغو ضمانت را محفوظ نگاه دارد.
- این دستگاه در نظر گرفته نشده تا در برنامه های کاربردی داخلی و مشابه (تحت پوشش ضمانت قرار نمی گیرد)، مانند موارد ذیل استفاده شود:
  - در آشپزخانه در مغازه ها، دفاتر و دیگر محیط های حرفه ای.
  - در آشپزخانه متعلق به کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های حرفه ای.
  - در مزارع.
  - استفاده توسط مشتریان هتل ها، متن ها
- دستورالعمل های استفاده را قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار با دقیق بخوانید و آنها را در یک محل امان نگه دارید: سازنده نباید هر گونه مسئولیت را در صورت مطابقت نداشتن هرگونه استفاده با دستورالعمل قبول کند.
- همیشه دستگاه را در صورت ترک آن بدون مراقب، قبل از مونتاژ یا تمیز کردن از پریز بشکشد. اجازه ندهید کودکان بدون نظرت از دستگاه استفاده کنند.
- این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی جسمی، حسی یا ذهنی، و یا نداشتن تجربه و دانش در نظر گرفته نشده، مگر اینکه آنها تحت نظرت باشند یا دستگاه بازی نمی کنند.
- دستگاه خود را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- زمانی که دستگاه شما در حال کار کردن است، دمای برخی قطعات ممکن است افزایش یابد (دیوار فولاد ضد زنگ کاسه، اسپیندل معمول قابل جدا شدن، قطعات شفاف درب و درپوش، قطعات فلزی موجب سوختگی شوند. با قطعات پلاستیکی سرد (دستگیره، واحد موتور) به دستگاه دست بزنید. چراغ نشانگر قرمز

FA



**FR** p. 1 - 16

**EN** p. 17 - 32

**NL** p. 33 - 48

**DE** p. 49 - 65

**IT** p. 66 - 81

**ES** p. 82 - 97

**PT** p. 98 - 113

**AR** p. 129- 114

**FA** p. 145- 130



8020000010-02